


ماہانہ اشاعت اہلسنت

سلسلہ اشاعت نمبر 98



حضرت مولانا حسن علی دہلوی مدظلہ العالی

مجموعۃ اشاعت اہلسنت (پاکستان)

شورم سجدہ کاغذی بازار گجرات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

نام کتاب : تین اعتقادی رشتے

از قلم : رئیس التحریر، علمبردار مسلک اعلیٰ حضرت

حضرت علامہ مولانا حسن علی رضوی بریلوی

ضخامت : ۹۶ صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسلہ اشاعت : ۹۸

۲۰۱۲ء تا ۲۰۱۳ء

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار، بیٹھارہ، لہرانہ۔ 74000 فون: 2439799

زیر نظر کتابچہ جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کے سلسلہ مفت اشاعت کی ۹۷ ویں کڑی ہے جس کو "تین اعتقادی رشتے" کے نام سے دوہم ایما کیا ہے اس کتاب میں حضرت علامہ مولانا حسن رضوی میاں نے غیر مقلدین کی کتاب تین تہائی رشتے کا مکمل اور مدلل جواب دیا ہے۔ امید ہے ہماری یہ کتاب قارئین کرام کے مٹے ہوئے دل کو ہمارا اثر سے کی۔

فقط

ادارہ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

نجدی وہابی کتابچہ "تین خونی رشتے" کا مدلل و محقق برق بارز نابے دار جواب

تین اعتقادی رشتے

از قلم باطل شکن، برق افکن، قاطع شرخبریت، دافع فتنہ وہابیت،

علمبردار مسلک اعلیٰ حضرت، رئیس التحریر

مولانا محمد حسن علی حنفی قادری رضوی بریلوی

(دانت برکاتہم العالیہ)

ناشر

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان

نور مسجد کاغذی بازار کراچی۔

مکتوب گرامی مخدوم اہلسنت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت نائب محدث اعظم

علامہ ابوداؤد محمد صادق صاحب رضوی مدظلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر طریقت مجاہد اہلسنت قاطع نجدیت مولانا المجاہد محمد حسن علی صاحب قادری رضوی کی زیر قلم تازہ کتاب "تین اعتقادی رشتے" کے چند اوراق دیکھنے کا اتفاق ہوا جو غیر مقلدین کے شراغیز کتابچہ تین خونی رشتے کا علمی تحقیقی تعاقب نہ ماشاء اللہ بہت مدلل و معقول و مضبوط گرفت کی گئی ہے مولیٰ تعالیٰ مسلمانان اہلسنت کو باطل فرقوں اور فتنوں کے شر سے بچائے اور مولانا موصوف کو بہتر سے بہتر جزاء خیر عطا فرمائے آمین۔

الفقیر ابوداؤد محمد صادق غفرلہ

مفسر قرآن شیخ الحدیث مولانا محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

برادر محترم علامہ محترم رئیس التحریر مولانا محمد حسن علی رضوی بریلوی برکاتہم اہلسنت کے ممکنہ مشق ماہر فن تحریر و تصنیف ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت داخل بریلوی اور سیدی سندی حضرت قبلہ محدث اعظم پاکستان قدس سرہما کا ان پر خاص کرم اور خصوصی نظر عنایت ہے مذاہب باطلہ بالخصوص وہابیہ نجدیہ کے رد و ابطال میں آپ کا تحقیقی قلم، باطل کے پرچے اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں "تین خونی رشتے" کا جس بھرپور اور متحقق انداز سے مکمل و مفصل رد و ابطال کیا ہے وہ انہی کے زور قلم کا حصہ ہے اول تا آخر کتاب تین اعتقادی رشتے عصر حاضر کی ایک منفرد و لا جواب کتاب ہے جو ناقابل تردید دلائل و شواہد کا مجموعہ ہے فقیر مصنف موصوف مدظلہ کے لئے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے۔

مدینے کا بھکاری فقیر ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی

پیش لفظ

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عطاء اللہ نعیمی مدظلہ العالی

شیطان جب تعظیم کا انکار کر کے مردود و مدحور بنا..... تو وہ بارگاہ ایزدی میں مہلت کا طالب ہوا۔ مہلت ملنے پر اس نے بر ملا لا غُوبِیْنَهُمْ اَجْمَعِیْن کا عہد کیا۔ جسے وفا کرنے کے لیے اسلام لانے والوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے، تعظیم کرنے والوں کو تعظیم کا منکر بنانے، محبت رکھنے والوں کے دلوں میں نفرت و بیزاری کا بیج بونے کو اس نے اپنا مقصود بنایا اور اس کی انجام دہی میں ہمہ تن مصروف ہوا۔ تبہا تھا پھر بڑھتا گیا ایک جماعت بن گیا۔ جنوں اور انسانوں میں جو افراد اس کے شریک کار بنے انہیں قرآن نے شیاطین الجن والانس کہا۔ شیطان جنوں میں سے ہو، یا انسانوں میں سے کام ان کا نبیوں سے دشمنی کرنا ہے۔ وجعلنا لکل لنبی عدوا۔ شیطان، نبی ﷺ کے ساتھ دشمنی کرتا رہا..... کبھی شیخ نجدی بن کر..... کبھی اپنے قبیعین کے ذریعے..... کبھی ابو جہل کی صورت میں..... کبھی عتبہ و شیبہ کی صورت میں..... کبھی ولید بن مغیرہ کی صورت میں..... کبھی ابی بنہ ابیہ کی صورت میں..... کبھی ابن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں..... کبھی اسماعیل دہلوی کی صورت میں..... کبھی احمد رائے بریلوی قتل کی صورت میں..... کبھی نانوتوی کی صورت میں..... کبھی تھانوی کی صورت میں..... کبھی انیسٹوی کی صورت میں..... کبھی گنگوہی کی صورت میں..... اپنے عہد کو وفا کرنے کے لئے اپنے قبیعین سمیت مصروف کار ہوا۔ اسی طرح وہ حضرات جو لوگوں کے دلوں میں عشق رسول ﷺ کی شمع فروزاں کرنے..... اہل اسلام کو تعظیم محبوب رب عظیم کا درس دینے..... اطاعت رسول ﷺ کا سبق سکھانے..... اتباع نبی ﷺ کا خوگر بنانے میں مصروف تھے یہ شیطان صفت بدردھیں ان سے لوگوں کو دور رکھنے کے لئے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہی ہیں تاکہ لوگ نہ ان سے تعلق جوڑیں، نہ ان کی تصانیف و تالیفات، تقاریر و مواعظ سے استفادہ کریں نہ شیطان اور اس کے پیرکاروں کے دام فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ

سکیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ابو جہل نے اسلام کی ترقی سے خائف ہو کر اسے روکنے کے لئے جو سازشیں کیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ﷺ کو جادوگر بتلا کر لوگوں کو آپ ﷺ سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا تو لوگ اس کے بہکاوے میں نہ آ کر سرد و کونین ﷺ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ آواز مبارک سنتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے بعض نے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی واضح مثال وہ عورت ہے جو اسی وجہ سے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی جس کا سامان بھی نبی رحمت ﷺ نے اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچایا۔ غرض یہ کہ جو طریقہ ابو جہل نے اپنا یا وہی انہوں نے اپنا لیا ہے۔

"مکناہ محقق" بھی اپنے اسلاف کی پیروی میں ابو جہل تک جا پہنچا۔ اُس ذات کو مورد اعتراض بنایا جس نے اپنی ساری زندگی امت مصطفیٰ ﷺ کو مشق رسول کے جام پلانے... ان کے دلوں میں محبت رسول ﷺ بیدار کرنے انہیں جہنم کا اندھن بننے سے بچانے میں گزار دی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سبق اس نے اپنے بڑوں سے یکساں اردو کامیاب نہ ہوئے تو اسے بھی دنیا میں ناکامی و نامرادی اور آخرت میں مذاب الیم کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

حضرت علامہ مولانا محمد حسن علی رضوی بریلوی مدظلہ نے اس "مکناہ محقق" کی اپنے اسلاف کے طریقے پر چلی ہوئی ایک چال سے بروقت اپن اسلام کو آچھڑنے کی سعی کرتے ہوئے ایک مدلل جواب تحریر فرمایا ہے جو اس نام نہاد محقق کی جاہلانہ معاندانہ جارحانہ الزام تراشیوں کا مکمل جواب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی و شافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم ﷺ کے طفیل ان کی اس سعی کو قبول فرمائے اور انہیں ہمیشہ مسلک حق اہلسنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم ﷺ کے طفیل جمعیت اشاعت اہلسنت پاکستان کو دن دو گنی اور زرات چو گنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے مہدی داران و کارکنان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الامین ﷺ
عبدالمصطفیٰ محمد عطاء اللہ النعمانی عفی عنہ

سبب تالیف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

گذشتہ چند سالوں سے کراچی کے مخلصین احباب اہلسنت کا اصرار تھا کہ غیر مقلدین وہابیہ نجدیہ کے حال ہی میں شائع ہونے والے ایک کتابچہ "تین خونی رشتے" کا جواب لکھ دیا جائے ان مخلصین احباب نے وہ کتابچہ بھی ارسال فرمایا اور یہیم تقاضہ فرمایا میرے نزدیک اس مبنی پر کذب و افتراء جھوٹے کتابچہ میں کوئی نئی بات نہ تھی جو کچھ اس کتابچہ میں ہے وہ گمنام، پردہ پوش، چھپے رستم، نقال محقق کا اپنا کمال نہیں فرقہ وہابیہ کے مختلف طبقے مختلف شاخیں اور ان کے بقلم خود نام نہاد اہل قلم اپنی معاندانہ تصانیف کتب و رسائل میں بار بار یہ الزام تراشیاں، بہتان طرازیوں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر کر چکے ہیں اور دیگر علمائے اہلسنت کے علاوہ فقیر راقم الحروف محمد حسن علی الرضوی البریلوی بھی اپنی مختلف تصانیف "قہر خداوندی"، "برہان صداقت"، "برق آسمانی"، "ایک ظلم نامی کا ازالہ"، "عقائد باطلہ کی ننگی تصویر"، "تنبیہ الجہال"، "محاسبہ جلد اول"، "جلد دوم"، "عجائب انکشاف" وغیرہ وغیرہ میں ان اور اس قسم کی دوسری جاہلانہ، معاندانہ و جارحانہ الزام تراشیوں کا رد و ابطال کر چکا ہے جو تقریباً عرصہ پچیس تیس سال سے لا جواب ہیں اور مخالفین اہلسنت وہابیہ سے نقد جواب کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس چھپے رستم، گمنام، پردہ پوش محقق نے مولوی ظہیر اور اس نے دیوبندی وہابی نسل کے مولویوں سے سیکھ کر یہ اندھا دھند الزام تراشی اور فریب کاری کا جال تیار کیا ہے اس کتابچہ "تین خونی رشتے" میں اس کے مرتب "محقق" کا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ "ایک محقق" تو محض ایک دل جلا، نقال، مرفوع القلم، ان ٹرینڈ مصنف ہے جس کو نہ اپنے دین دھرم عقیدہ و مسلک کا پتہ ہے نہ اپنے اکابر کا نہ ہمارا اور ہمارے اکابر کے عقیدہ و مسلک کا، اسی لیے اس "ایک محقق" نے ماضی قریب میں جہنم لینے والے

اعتراضات نقل کر کے دل کی بھڑاس نکالی ہے اور پھر بھگتے چور کی طرح کتابچہ پر مصنف کا اپنا نام، پتہ اور ناشر ادارہ کا پورا اتا پتہ بھی نہیں کہ ہم اس کے گھر پہنچ کر اس کے نقل کردہ حوالہ جات پر بات چیت کریں مصنف نے لکھا ہے "ایک محقق کے قلم سے" اور لکھا ہے ناشر "انجمن تحفظ حقوق اہل حدیث پاکستان" اب اس مفروضہ اور بھگڑے مصنف و ناشر کو کہاں تلاش کیا جائے گا

صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں

ہم کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ چیلنج کرتے ہیں کہ مصنف بقلم خود محقق صرف اتنا ہی ثابت کر دے کہ جو الزامات، عبارات کا حلیہ بگاڑ کر، خلاف واقع مفہوم کشید کر کے، غلط معنی پہنا کر درج کیے گئے ہیں وہ اپنے قیام پاکستان 1948ء سے قبل کے اکابرین غیر مقلد و ہابیہ سے ثابت کر کے اپنی حیثیت اور مقام و اوقات کے مطابق پانچ روپے فی حوالہ انعام حاصل کر لے۔

دوسرا چیلنج پر چیلنج یہ ہے کہ یہ "ایک محقق" مصنف برقعہ اتار کر پردہ نشینی سے باہر آ کر مینار پاکستان پر ہم سے کھلے بندوں، سرعام مناظرہ کر لے کہ آیا ان عبارات کا وہی معنی اور وہی مفہوم ہے جو مصنف نے جلے بھنے دل و دماغ سے زور زوری بیان کیا ہے اور عذاب قبر و آخرت سے بے نیاز ہو کر سینہ زوری سے سیدنا امام اہلسنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور علماء اہلسنت پر یہودیانہ تحریف کے ذریعہ بہتان طرادی کی ہے۔ مناظرہ کی اجازت لے کر ہمیں وقت، مقام، تاریخ سے مطلع کیا جائے، ہم منتظر ہیں گے۔

اور یہ بھی دیکھ لیں بہت پرانی مثال ہے "قالے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہو گئے رو جاتے ہیں" پیکر عشق رسالت، فدائے شان نبوت سیدنا امام اہلسنت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر تمہاری قدیم و جدید افتراء پر دازیوں، الزام تراشیوں کا کیا اثر پڑا ہے آج برصغیر ہندوپاک و بنگلہ دیش اور ممالک اسلامیہ، بلاد عربیہ بلکہ مغربی یورپی افریقی کم و بیش 27 ممالک میں سینکڑوں جگہوں پر امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اعراس مبارک، یوم رضا کی تقاریب مبارک اور امام احمد

رضا کا نفر نسوں کا انعقاد ہوتا ہے اور دنیا انہیں اپنا امام و مجدد مانتی ہے۔ جہاں ایک طرف سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اپنی ایک ہزار سے زائد اور ستر علوم و فنون پر محیط منفرد محققانہ تصانیف ہیں وہاں خود سیدنا اعلیٰ حضرت کی ایک ہزار سے زائد سوانح عمریاں چھپ چکی ہیں۔ پاکستان و ہندوستان کے چپہ چپہ پر عرس قادری رضوی و یوم رضا کی محفلیں دھوم دھام اور تزک و احتشام سے فیض بخش ہیں بلکہ ایک ایک شہر میں کئی کئی مقام پر اور ایک ایک مقام پر کئی کئی دن شب و روز فیض رضا جاری و ساری ہے۔ ہزاروں مدارس دیدیہ تعلیمی ادارے ہزاروں دینی انجمنیں اور جماعتیں سیدنا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی پر محتویات و اشاعت ہیں جبکہ الزام تراشیاں کرنے والوں کے اکابرین کا کہیں کوئی پتہ نہیں سب گوشہ و گمنامی میں چلے گئے اور مرکز مٹی میں مل گئے۔

"مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود"

امام اہلسنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا و مصطفیٰ و امامت و عالمگیر محبوبیت

کا یہ عالم ہے کہ:-

اے رضا روز ترقی پہ ہے چرچا تیرا
اوج اعلیٰ پہ چمکتا ہے ستارا تیرا
اہل ایمان کے دلوں میں ہے محبت تیری
دشمن دین کو سدا رہتا ہے کھٹکا تیرا

یا ہوں بکھلیں کہ:-

احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی
خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی
سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ
احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی

سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ

وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے
جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے

مخالفین، معاندین، حاسدین کے امام احمد رضا فاضل بریلوی پر لائینی، بے معنی
اعتراضات خود اپنی موت آپ مر رہے ہیں اور سیدنا امام احمد رضا کل بھی زندہ و جاوید تھے آج بھی
زندہ و جاوید ہیں۔

ہرگز نیرد آنکہ دلم زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما ست

ہم پوچھتے ہیں کہ جو الزام تراشیاں آج پردہ نشین، گم نام "محقق" کر رہا ہے یہ الزام
تراشیاں غیر مقلدین وہابیہ کے مسلمہ اکابرین مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی اسماعیل غزنوی،
مولوی داؤد غزنوی، مولوی ثناء اللہ، مولوی عبد الجبار، مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، مولوی نواب
صدیق حسن بھوپالی، مولوی وحید الزماں وغیرہ نے کیوں نہ کیں کیا ان کا دائرہ علم و تحقیق و
تاریخ محدود و مختصر تھا اور وہ نرے کورے لاعلم و جاہل رہے؟

مرفوع القلم مصنف نے خرافات "ایک محقق کے قلم سے" جس سے پتہ چلا کہ یہ طبع
سازیاں اور خلاف وضع مفہوم اخذ کرنے کی عیاریاں اس ایک محقق کا اپنا خود ساختہ تحقیقی کارنامہ
ہے یہ خود بدولت خود محقق و موجد ہیں یہ مقلد نہیں کہ ان کے بڑوں نے جس اعلیٰ حضرت پر الزامات
لگائے ہوئے ہوں اور یہ ان کی تحقیق پر یقین کر کے ان کی تقلید کر رہا ہو۔ یہ بے چارہ تو خود محقق ہے
اور عقل شکن الزام تراشیوں میں مولوی ظہیر نے بعد فرد تنہا ہے۔

اللہ ربُّ مُحَمَّدٍ صَلَّی عَلَیْہِ وَسَلَّمَا نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّی عَلَیْہِ وَسَلَّمَا
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا سَیِّدِی یَا رَسُوْلَ اللہِ

تقدیم لا جواب حرف آغاز

کے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفوی

جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی

غیر مقلدین فرقہ وہابیہ علم سے کور اور عقل سے پیدل ہے قدم قدم پر اس کا مشاہدہ کیا جا
سکتا ہے کراچی کے غیر مقلدین وہابیہ نجدیہ نے حال ہی میں جو شرانگیز کتابچہ "تین خونی رشتے"
شائع کیا ہے وہ ہمارے اس دعویٰ پر روشن دلیل ہے۔ اس کتابچہ کے نام ہی کو دیکھ لو اور عقل و شعور
کی کسوٹی پر پرکھ لو کتابچہ کا نام ہے "تین خونی رشتے" بریلوی، قادیانی، شیعہ۔

تو جواباً گزارش ہے کہ بظاہر خونی رشتہ ہونا ممکن ہے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، غیر
مقلد وہابی، نجدی، قادیانی، بلکڑالوی بظاہر انسان ہیں نوع بشر سے ہیں گدھا، گھوڑا، خچر، کتابیا سور
ان کی نسل سے نہیں۔ ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں اور بشریت کے دعوے دار
ہیں تو بظاہر خونی رشتہ ہونا قرین قیاس ہے اور اس میں بظاہر کوئی خرابی اور شرعی قباحت نہیں، بتایا
جائے کیا تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی
اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، ابولہب ایک بابا ایک دادا کی اولاد نہیں تھے کیا
یہ خونی رشتہ مورد طعن ہے اور خلاف واقعہ ہے مگر اول الذکر تینوں مقتدر حضرات کو جو ایمان و اسلام
کی دولت و نعمت ملی وہی وجہ فضیلت و بزرگی و برتری ہے اور کتابچہ کا یہ مسخرہ سا نام قطعاً بے حقیقت
ہے ذرا اور آگے چل کر دیکھ لیں کیا کنعان سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کے خون سے نہیں تھا؟
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت تاریخ اور آذر ایک والد کی اولاد نہیں تھے؟ کیا یزید
پلید، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہ تھا؟ تو محض بظاہر خونی رشتہ دار ہونے سے کیا
فرق پڑتا ہے اور یہ کیوں کہ مورد الزام ہو سکتا ہے ایک خاندان میں کوئی دین دار کوئی بے دین ہو سکتا

ہے۔ آج جتنے باطل فرقے ہیں رافضی، خارجی، وہابی، نجدی، قادیانی، چکڑالوی، مرزائی وغیرہ وغیرہ سب مسلمانوں سے لگے ہیں ان سب کے آباء و اجداد بڑے بڑے سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے اب آگے چل کر گردش زمانہ کے تحت کوئی شیطان کے جال میں پھنس گیا اور گمراہ اور بے دین ہو گیا تو اس کا نسب نامہ اور بظاہر خونی رشتہ تو ختم نہ ہوا ہاں ان سے دینی ایمانی روحانی رشتہ باقی نہ رہا ایک دادا، ایک والد کی اولاد میں کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے جوابی کتابچہ کا نام "تین اعتقادی رشتے" رکھا ہے اور خرابی، اعتقادی رشتہ میں ہے خونی رشتہ وجہ طعن نہیں، اعتقادی رشتہ میں چونکہ اعتقادی و مسلکی ہم آہنگی، موافقت اور دینی یکانیت پائی جاتی ہے اس لیے اعتقادی رشتہ میں یقیناً اثرائی اور سراسر خرابی ہے اور یہ کہ اعتقادی رشتہ تو کوئی آج بھی بدل سکتا ہے مثلاً کوئی غیر مقلد وہابی قادیانی رافضی سنی توبہ کر کے سنی مسلمان بن کر اپنے پرانے دینی ایمانی اعتقادی رشتہ سے منسلک ہو سکتا ہے لیکن خونی رشتہ بدلنا کسی کے اپنے بس میں نہیں ہے مثلاً کیا کوئی غیر مقلد وہابی نجدی محض اس لیے اپنا خونی رشتہ بدل سکتا ہے کہ سنی حنفی بریلوی بھی نوع بشر سے ہیں انسان ہیں لہذا میں اپنا خونی رشتہ بدلتا ہوں اور نوع فوق و خرد سگ میں داخل ہوتا ہوں؟ لہذا وہابیوں کے کتابچہ کا نام محض جذباتی اور سراسر جاہلانہ اور قطعی غیر دانشمندانہ ہے اور ہمارے جوابی کتابچہ کا نام تین اعتقادی رشتے اس لیے صحیح ہے اور قرار واقعی طور پر حقیقتاً درست ہے کہ ہمارے مذمتی مقابل تیوں باطل فرقوں میں گہری مسلکی و اعتقادی و فکری ہم آہنگی اور مطابقت موجود ہے۔

حرف آغاز:-

یہ عنوان بھی قطعاً بے محل اور غیر موزوں ہے کیونکہ حرف کا لغوی معنی عامہ کتب لغت میں الف۔ ب۔ کلمہ لفظ مرقوم ہے دیکھو فیروز اللغات، امیر اللغات، علمی اردو لغت وغیرہ حرف کی جمع حروف ہے جو چند حروف کا مجموعہ ہوتا ہے اور چند حروف مل کر جملہ یا فقرہ بنتا ہے اور چند جملے مل کر عبارت بنتی ہے اور متعدد عبارات کے مجموعہ کا نام مضمون یا مقالہ کہلاتا ہے مگر یہ علم سے کورے وہابی

مضمون نگار کی صریح جہالت ہے کہ صفحہ ۳ تا صفحہ ۴ پر پھیلے ہوئے مضمون کو حرف قرار دے رہا ہے۔

غیر مقلدانہ جہالت کا تماشا:-

غیر مقلد وہابی قلم کار بدحواسی کے عالم میں کچھ کا کچھ لکھ رہا ہے گویا اس کو ادب و لغت الفاظ کے معانی و مفہوم سے کچھ غرض نہیں۔ مقصد عوام کو مغالطہ دینا اور اپنے ہم عقیدہ وہم مسلک لوگوں کو ہنسانا ہے لہذا اپنے مخصوص جاہلانہ انداز میں اپنے صفحہ ۳ کے حرف آغاز کی تیسری سطر میں بے مقصد و بے ہنگم لفاظی کا بے ربط مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:-

"ایک مخصوص طبقہ جن کے سروں پر ہمہ وقت امن و آشتی کا نشان بندھا رہتا ہے۔"

ہم یہاں صرف اتنا در یافت کریں گے کہ اگر وہابیوں میں کوئی آدھا پوتا اہل لغت و اہل زبان و کلام ہو تو وہ ہمیں صرف یہ بتا دے کہ یہ "امن و آشتی" کیا ہوتا ہے اور یہ کس ڈکشنری سے ماخوذ ہے؟ کیونکہ امن کا معنی تو عامہ کتب لغت میں پناہ، اطمینان، چین لکھا ہے اور آشتی، آتش سے ہے اور آتش کا معنی آگ اور شعلہ ہے کسی بھی لغت کو دیکھ لیں تو وہابی کی امن و آشتی کا معنی ہوا اطمینان اور چین و سکون کی آگ۔ بہت خوب وہابیوں کو واقعی آگ میں چین و سکون اور اطمینان ہوگا۔

نکل جاتی ہے سچی بات منہ سے مستی میں

اب دیکھتے ہیں اصل لفظ کیا ہے تو جناب آپ پرائمری اسکول کے کسی مبتدی طالب علم سے پوچھ لیں اور کسی کتب لغت کی کتاب کو دیکھ لیں اصل لفظ امن و آشتی ہے امن کا معنی اور پر بیان ہوا اور آشتی کا معنی صلح، محبت اس طرح صحیح لفظ امن و آشتی کا معنی ہوا امن، چین، سکون، اطمینان کی صلح و محبت دیکھو کتب لغت فیروز اللغات، فرہنگ آصفیہ، اظہر اللغات، علمی اردو لغت وغیرہ وغیرہ۔

انصاف پسند قارئین کرام یہیں سے سمجھ لیں کہ غیر مقلد وہابی قلم کار کتنے پانی میں ہے اور کس پایہ کا محقق ہے جس کو صحیح غلط الفاظ کے استعمال اور ان کے معنی و مفہوم کی خبر تک بھی نہیں ایسا جاہل مطلق، علمائے عرب و عجم کے مدد و حاح امیر المومنین فی الحدیث، بحر نقاہت، امام المکرمین، تاج المحققین مسلمہ امام و مجدد سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قلم کے بادشاہ اور علم

کے سمندر کو اپنی جاہلانہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ

تیرے اعداء میں رضا کوئی بھی منصور نہیں
بے حیا کرتے ہیں کیوں شور مچا تیرے بعد
کیا بے حیا مفتری مصنف کو معلوم نہیں کہ سیدنا امام اہلسنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل
بریلوی قدس سرہ کی عظمت و جلالت شان یہ ہے

یہ وہ دربار ملطان قلم ہے

جہاں پر سرکشوں کا سر قلم ہے

نجدی قلم کار نے ایک محقق کے پردے میں چھپ کر آنکھوں پر بے حیائی کا چشمہ لگا کر
جو صریح خرافات کہی ہیں ان میں کچھ ادنیٰ سی بھی حقیقت و واقعیت ہوتی تو نجدی قلم کار کے اکابر
اجداد ضرور ضرور ان کا رد کرتے اور جواب دیتے یا پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ
الرحمہ کے معاصرین غیر مقلدین وہابی مولوی دم سادھے، لب باندھے منافق بن کر بیٹھے رہے
تھے اور ان کی زبان و قلم امام اہلسنت کے سامنے گنگ ہو کر رہ گئی تھی، آخر

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

مگر نہیں! ہرگز ہرگز نہیں!!! سیدنا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ایمان و عقیدہ
میں وہ بات تھی ہی نہیں جو الزامات میں اعادہ کر کے دہرائی گئیں اور اپنا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر
کیا گیا اور بے دغدغہ جھوٹ بول لے بارات کا مفہوم بگاڑا گیا اور غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔

وہابی توحید کی حقیقت :-

جاہل مطلق قلم کار جس کو الفاظ و املا و عبارت لکھنے اور خود اپنے ہی الفاظ کا معنی و مفہوم
سمجھنے کی اہلیت و قابلیت نہیں صفحہ ۳ کے اپنے حرف آغاز میں لکھتا ہے کہ:-

"اہل توحید کے خلاف آئے دن تحریروں، تقریروں اور شریروں کے ذریعہ
مصروف عمل رہنا ان کا من پسند مشغلہ ہے"

جواباً عرض ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بتادیں کہ اہل نجد کی توحید فی الحقیقت ایسی
توحید ہے جس طرح الہیوں مردود نے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام اور
حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر نور محمدی ﷺ کی تعظیم نہ کی، اللہ عزوجل کے حکم کے
خلاف اس تعظیم کو شرک سمجھ کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر پھینکا را گیا اور مردود ہوا تو ہمیں یہ کہنے میں
کوئی باک نہیں کہ وہابیوں نجدیوں کی توحید اصنام کے خلاف نہیں بتوں اور بت خانوں کے خلاف
نہیں، مندروں اور مورتیوں کے خلاف نہیں، رام چندر، کرشن کنہیا، گھنیش کے خلاف نہیں آریہ یا
سناتن دھرم کے خلاف نہیں۔ محبوبان خدا حضرات انبیاء و اولیاء کے خلاف ہے۔

اگر یہ غلط ہے، محض الزام برائے الزام ہے تو بتاؤ..... وہابیوں، غیر مقلدوں، نجدیوں
کے اکابر و اصاغر نے مندروں، بت خانوں، مورتیوں کے خلاف کتنی کتا ہیں، کتنے پمفلٹ اور رسائل
شائع کیے ہیں؟ اور شرک شرک کے کتنے فتاویٰ جاری کیے ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو سہی
وہابیوں نے کتنے مندروں کو توڑا، کتنے بت خانوں کو اٹھایا اور کتنی مورتیوں کو پامال کیا؟ مگر نہیں کچھ
نہیں۔ شرک و بدعت کے جاہلانہ اور اندھے فتاویٰ لگائے تو حضرات محبوبان خدا انبیاء و اولیاء علیہم
السلام و قدس سرہم کی تعظیم اور ان کے ادب و احترام پر لگائے اور اگر ڈھایا اور گرایا تو محبوبان خدا
صحاب کرام، اہل بیت اطہار، تابعین و کاتبین نظام، آئمہ مجتہدین اور اولیائے کاملین کے مزارات مقدسہ کو
ڈھایا اور گرایا اور ڈھانے اور گرانے کے کراہ کن فتاویٰ دیئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہابیوں کی توحید
بتوں اور بت خانوں کے خلاف نہیں محبوبان خدا حضرات انبیاء و اولیاء کے خلاف ہے۔

انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کے وہابی دعویٰ کی نقاب کشائی :-

بڑی دیدہ دلیری اور بڑی سینہ زوری سے وہابی قلم کار نام نہاد محقق نے ڈھٹائی سے یہ
بھی لکھا ہے کہ:-

"ان تکفیری فتوؤں کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ توحید پرستوں میں سے کوئی
بھی نہ بچ سکا اور انگریز کے خلاف اعلان جہاد کرنے والے ان کی نظر میں
سب کے سب کافر ہیں۔"

جوانا گذارش ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولنا حقیقت کا منہ چڑاتا، وہابیوں غیر مقلدوں کی روح کی غذا ہے۔ وہابیوں نے کب اور کہاں انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا یہ کس غیر جانبدار مورخ نے لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے وہابیوں غیر مقلدوں کی خود اپنی کتابیں چیخ چیخ کر ثابت کر رہی ہیں کہ ان کے اکابر انگریز بہادر کا سب سے بڑا دفاعی بارڈر اور انگریز افواج کی نصرت و حمایت کا ہر اول دستہ تھے بفضلہ تعالیٰ ہم نے اپنی معرکہ لآبرا کتاب "برہان صداقت برنجہدی بطالت" اور کتاب "محاسبہ دیوبندیت" "جواب" "مطالعہ بریلویت" کی جلد اول اور جلد دوم میں ایک سو سے زیادہ ناقابل تردید و ناقابل تسخیر مستند و معتبر ترین کتابوں کے لاجواب حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ اکابرین وہابیہ انگریزوں کے سب سے بڑے پھوٹے اور اب بھی دیکھ لو سعودی نجدی حکومت کے سب سے بڑے گداگر نام نہاد تو حیدی مسجدوں، تو حیدی مدرسوں اور نجدی وہابی کتابوں کی اشاعت و طباعت کے نام پر پاکستان میں فتنہ و شر پھیلانے اور پاکستان کو وہابی اسٹیٹ بنانے کیلئے لاکھوں کروڑوں ریال وصول کرنے والے وہابیوں کا آقائے نعمت خداوند دولت نجدی وہابی حکمران ٹولہ امریکہ و برطانیہ کا سب سے بڑا پٹھو ہے اور امریکہ و برطانیہ کے رحم و کرم اور فضل و عنایت پر ہے اور امریکہ و برطانیہ کی انگریزی افواج ہی ان کی حفاظت و بقا کی ذمہ دار ہے۔

بہر حال وہابیوں غیر مقلدوں نے کیا اعلان جہاد کرنا تھا برصغیر ہندوپاک میں ان کی حیثیت و وقعت ہی کیا تھی ہر اقلیتی فرتے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی پارٹی سے بھی کم اور بہت کم ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، کہتے ہیں

کیا پدی کیا پدی کا شور با۔؟

غیر جانبدار مورخین کو چھوڑیے خود وہابی مورخین بقلم خود و بیدہ اپنی انگریز پرستی اور جہاد دشمنی کا کھلم کھلا اعتراف کرتے ہیں اور ہم اس موضوع پر ناقابل تردید دلائل اور حوالہ جات کا طوفان لا سکتے ہیں مگر ہمارا یہ زیر تحریر کتابچہ ایک مختصر و محدود جوابی رسالہ ہے چند ناقابل تسخیر حوالوں پر اکتفا کرتا ہوں حالانکہ خوب جانتا ہوں انہوں نے اپنے نام نہاد اعلان جہاد کے دعویٰ پر ایک بھی

برائے نام حوالہ نقل نہیں کیا اور زبانی کلامی انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کا دعویٰ ہی دعویٰ کیا ہے اور صرف اور صرف زبانی کلامی جمع خرچ سے کام لیتے ہوئے ہوائی گھوڑے دوڑائے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان وہابی غیر مقلدین کے اکابرین نے انگریز کے خلاف جہاد کا نہیں انگریز کے حق میں عدم جہاد کا فتویٰ دیا اور اعلان کیا تھا ملاحظہ ہو۔

انگریز سے جہاد درست نہیں:

"اٹھائے قیام کلکتہ میں ایک روز مولانا اسماعیل شہید و عظم فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے مولانا سے فتویٰ پوچھا کہ سرکار انگریز پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مولانا (اسماعیل مصنف تقویۃ الایمان) نے فرمایا کہ ایسی بے رور یا اور غیر متعصب سرکار (انگلشیہ) پر کسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں ہے۔" (تواریخ حبیب ص ۷۳)

وہابی علماء کا اعلان تھا:

"گر کوئی ان (انگریزی حکمرانوں) پر حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی (انگریزی) گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔" (حیات حبیب ص ۲۹۶)

وہابی غیر مقلدین کے اکابر کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ:-

"ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور خلاف اصول مذہب طرفین کا خون بلا سبب گرا دیں کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے۔ نہ انگریزوں کا نہ سکھوں کا۔" (تواریخ حبیب ص ۹۱)

نوٹ سر دست یہ تین ایسی حوالے کافی ہیں در نہ سینکڑوں حوالہ جات اس موضوع پر پیش کیے جاسکتے ہیں اور کریں گے۔

اہم ضرورت وضاحت:

یہاں اس حقیقت کی وضاحت کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان غیر مقلدوں وہابیوں کے ہاں انتہائی معتبر، مستند، مسلم ہیں اکابرین وہابیہ کا سرخیل مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی غیر مقلد لکھتا ہے کہ:-

"مولوی محمد اسماعیل دہلوی مرحوم نے (جو کہ وہ احمدیہ کے ایک ہادی ممبر تھے) "(الاقتصاد فی مسائل الجہاد ص ۵۵)

سردار احمدیہ مولوی ثناء اللہ امرتسری بھی لکھے دل سے اقرار و اعتراف کرتے ہیں فتاویٰ ثنائیہ جلد اول ص ۹۸ کا سوال و جواب ملاحظہ ہو۔

سوال..... کیا مولانا اسماعیل شہید مقلد تھے؟ مولوی ثناء اللہ امرتسری اس سوال کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:-

"مولانا (اسماعیل دہلوی) کے مسلک کی مزید وضاحت آپ کی کتاب تنویر العینین سے ہوتی ہے جو مسئلہ رفع یدین کے اثبات میں ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید اعتقاداً و عملاً احمدیہ تھے۔"

(بحوالہ انبار مزمل لاہور مئی ۱۹۳۵ء، فتاویٰ ثنائیہ جلد اول ص ۱۰۱)

ثابت ہوا کہ مولوی اسماعیل دہلوی غیر مقلد وہابی ان کے معتبر عالم تھے۔

قارئین کرام غور فرمائیں:

کراچی کے گنام پردہ پوش وہابی مصنف نے تو صرف یہی جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مولویوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ مگر ان کے مشہور و معروف مبلغ و مناظر مولوی عبدالقادر روپڑی وہابی نے ایک بار اپنے ایک اخباری انٹرویو میں بے دریغ جھوٹ بولتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ:-

"انگریز احمدیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا کرتے تھے..... اور

انگریزوں نے بنگال کے دو لاکھ اہل حدیث علماء کو پھانسی دی تھی۔"

اس پر ہم نے لکھا تھا کہ روپڑی صاحب آپ نے جھوٹ بولنے میں جھوٹ کی بھی کمر توڑ دی اور یہ کہ روپڑی صاحب آپ کی یہ دیدہ دلیری کہ آپ نے جھوٹ بولنے میں اپنی عمر اور اپنے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں کیا آپ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اور جھوٹ بولنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملارہے ہیں۔ روپڑی صاحب کو چیلنج کرتے ہوئے ہم نے ان پر واضح کیا تھا اور یہ آئینہ دکھایا تھا کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اور اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی نہیں تھے جب تمہارے امام لاکا برنواب الوہابیہ مولوی صدیق حسن خاں بھوپالی اس قرار واقعی حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کر چکے تھے وہ صاف صاف لکھ گئے ہیں کہ:-

"اس (ہمارے) گروہ اہل حدیث کے خیر خواہ و قادر رعایا برٹش گورنمنٹ (برطانیہ) ہونے پر ایک بڑی روشن اور قوی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ (احمدیہ) برٹش گورنمنٹ کے زیر حمایت رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے اہل سائبر و سہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔" (احمدیہ اور انگریز و رسائل احمدیہ، نوالہ اقبال السدید ص ۱۲، ۱۳)

ہم نے وہابی مناظر روپڑی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ اور سب باتوں کو جانے دیں آپ صرف ان دو لاکھ وہابی علماء میں سے صرف ایک لاکھ ایسے وہابی علماء کے نام بتادیں جن کو بقول تمہارے انگریز نے پھانسی دے دی تھی اور تختہ دار پر لٹکا دیا تھا؟

ہم نے روپڑی صاحب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ بنگال میں دو لاکھ وہابی علماء کہاں سے کوہڑے بنگال میں تو مجموعی طور پر سارے وہابی بھی دو لاکھ نہیں تھے اور ان کو چیلنج کیا تھا کہ اس زمانہ کا کیا آپ اس دور میں پورے پاکستان کے دو لاکھ وہابی علماء کے نام گنوادیں گے مگر وہ جواب سے عاجز رہے اور ان کا سکوت نہ ٹوٹا۔

کیا بنے بات جہاں بات بنائی نہ بنے

یہ زبرد و تبصرہ شراغیز کتابچہ کسی گنام انجمن تحفظ حقوق احمدیہ پاکستان کے جعلی نام سے شائع کیا گیا ہے بے چارے انگریز کے خلاف کیا اعلان جہاد کر سکتے تھے ان کے مفسر و محقق

ڈپٹی نذیر حسین دہلوی انگریزی حکومت کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے اور اسی زمانے میں ایک پرانا شعر پرانی کتابوں میں موجود ہے ڈپٹی نذیر حسین دہلوی انگریز کی قصیدہ خوانی کرتا اور انگریزی حکومت کے گیت گاتا تھا کسی نے کیا خوب لکھا ہے۔

ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے
نذیر اپنی ہی برٹش کا راگ لے کے چلے

ملکہ وکٹوریہ براؤنڈ الہدیث:

جیسا کہ ہم نے اوپر واضح کیا کہ یہ لوگ انگریزوں کے خلاف کیا اعلان جہاد کر سکتے تھے ہمیں یاد آیا کہ غیر مقلدین وہابیہ کے اکابر نے تو اپنے مذہب کا نام الہدیث بھی گورنمنٹ برطانیہ اور ملکہ وکٹوریہ سے منظور کرایا اور سرکاری کاغذات میں درج کرایا تھا اس کا ثبوت بھی ان کے اپنے اکابر کی مستند کتابوں میں محفوظ و موجود ہے ملاحظہ ہو۔

ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین جدی پشتی قدیمی الہدیث تھے تو پھر انہوں نے اپنے لیے وہابی کے بجائے اہل حدیث نام گورنمنٹ انگلشیہ یعنی انگریزی حکومت سے کیوں منظور لرایا؟ ان کی اپنی کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ:-

"انگلش گورنمنٹ ہندوستان میں خود اس فرقہ کے لیے خود وہابی کہلاتا ہے

ایک رحمت ہے۔ جو سلطنتیں اسلامی کہلاتی ہیں ان میں بھی وہابیوں کو ایسی

آزادی مذہب ملنا دشوار بلکہ ناممکن ہے سلطان کی عمل داری میں وہابی کا

رہنا مشکل ہے۔ (ہمیں) سب سے زیادہ انگلش گورنمنٹ کا شکریہ ادا

کرنا چاہئے جس نے مولوی ابوسعید محمد حسین کی کوششوں کو منظور کیا غرض

کہ مولوی محمد حسین کی کوشش سے گورنمنٹ (انگریزی حکومت) نے منظور

کر لیا کہ آئندہ سے گورنمنٹ کی تحریرات میں اس فرقہ کو وہابی کے نام

سے تعبیر نہ کیا جاوے بلکہ الہدیث کے نام سے جس نام کا وہ فرقہ اپنے

تئیں مستحق سمجھتا ہے موسوم کیا جاوے" (مقالات سرسید حصہ نہم
ص ۲۱۲، ۲۱۱) مرتبہ مولانا محمد اسماعیل پانی پتی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ
بابت ۲ فروری ۱۸۸۹ء)

اس کے علاوہ مولوی عبدالمجید سوہدروی ایڈیٹر مفت روزہ الہدیث بڑے فخریہ طور پر اس
حقیقت کو فراخ دلی اور فرحت و مسرت کے ساتھ بیان کرتے اور مولوی محمد حسین دہلوی غیر مقلد
وہابی کے حالات میں رقم طراز ہیں کہ:-

"لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا

اور جماعت کو الہدیث کے نام سے موسوم کیا گیا" (سیرت ثانی ص ۳۷۲)

پچھلی سرکاری گورنمنٹ انگلشیہ (انگریزی حکومت) چٹھی نمبر ۱۷۵۸ مورخہ ۳ دسمبر

۱۸۸۶ء گورنر جناب بہار جناب سی۔ آئی۔ اپنی سن سے اتفاق کرتے ہیں کہ:-

"آئندہ سرکاری خط و کتابت میں وہابی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے" (مفت

روزہ اہل حدیث امرتسر ۲۶ جون ۱۹۰۸ء)

غیر مقلد جواب دیں جب آپ اپنے بقول قدیمی اہل حدیث تھے عہد رسالت اور عہد

صحابہ کرام سے اہل حدیث تھے تو پھر گورنمنٹ انگلشیہ سے اہل حدیث نام اپنی جماعت کے لیے

کیوں منظور کرایا؟

یاد رہے کہ غیر مقلد وہابیوں کو وہابی نام اتنا پیارا تھا کہ غیر مقلدین کے منسوخ و محدث

مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنے رسالہ کا نام بھی ترجمان وہابیہ رکھا ہوا ہے۔

اسی طرح مشہور و معروف غیر مقلد وہابی مولوی اسماعیل غزنوی سلمان بن تحمان نجدی

کی کتاب الہدیۃ السنیۃ کے اردو ترجمہ کا نام "تحفہ وہابیہ" رکھا ہوا ہے جو آفتاب برقی پریس امرتسر

میں چھپا تھا۔

نجدی وہابی قلم کار خود بتائے کہ کیا اعلان جہاد کرنے والے مجاہدین ایسا ہی کرتے

ہیں۔؟ آخر انگریزوں کی تائید و حمایت اور امداد و اعانت کے بغیر برصغیر میں غیر مقلد کس طرح پنپ سکتے تھے۔؟

کیا جواب ایسے بھی ہو یا جاتا ہے؟

غیر مقلد نجدی نے اپنے کتابچہ کو جمعیت اشاعت اہلسنت کی طرف سے شائع شدہ مولانا ضیاء اللہ صاحب قادری کے پمفلٹ "تین سکے بھائی" کا جواب قرار دیا ہے مگر اس نام نہاد جوابی پمفلٹ "تین خونی رشتے" میں "تین سکے بھائی" کا کیا جواب ہے.....؟ کس بات کا جواب ہے.....؟ برائے نام بھی جواب نہیں ایک شخص کسی پر چوری کا الزام لگاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنی صفائی دے اپنی بے گناہی ثابت کرے اور پھر اگر ثبوت ہو تو اپنے مخالف پر الزام لگائے چنانچہ وہابی رائٹر کو چاہئے تھا پہلے اپنی اور اپنے اکابر کی پارسائی و بے گناہی ثابت کرنا ثبوت لاتا مخالف دلائل کو دلیل و حوالہ جات سے جھٹلاتا پھر خود الزام قائم کرتا، ثبوت دیتا مگر وہابی صاحب نے جذبہ انتقام سے مغلوب الغضب ہو کر جواب دینے کے بجائے الزام تراشی شروع کر دی یہ کیا جواب ہوا.....؟ یہ تو وہ بات ہوئی کہ ایک دیدہ و بینا کسی کانے کو کاٹا کہتا ہے تو وہ غیظ و غضب میں آ کر اس آنکھوں والے کو جواباً اندھا کہتا ہے، جواب اس کو نہیں کہا جاتا وہابیوں کو چاہئے تھا کہ پہلے تین سکے بھائی میں قائم کیے گئے الزامات کا مدلل و معقول جواب دیتے ہیں ہم انشاء اللہ تمہیں جواب دیں گے اور تمہاری الزام تراشیوں کا تار و پود بکھیر کر رکھ رہے ہیں۔

ابتدائے بحث ہے روتا ہے کیا

آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

سب کے سب کافر ہیں (سب کو کافر کہہ دیا):

وہابیوں کی یہ بھی خاص ادا مگر اوجھا ہتھیار ہے کہ علماء اہلسنت نے اس کو کافر کہہ دیا اُس کو کافر کہہ دیا فلاں کو کافر کہہ دیا سب کو کافر کہہ دیا وغیرہ یہی کچھ اس کتابچہ کے صفحہ ۳ پر اس گمنام محقق صاحب نے جھک ماری ہے مگر ثبوت کچھ بھی پیش نہیں کیا حوالہ اور دلیل کچھ بھی نقل نہیں کی

گویا قلکار نے یہ سب کچھ شیطانی الہام سے لکھا ہے۔ گستاخ ملاؤں کو چھوڑ دو اور ثابت کرو سیدنا امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکٹر اقبال، وہابی پاکستان محمد علی جناح اور دوسرے لیڈروں کو کہاں کس کتاب میں کافر قرار دیا ہے؟ باقی رہے اہل توہین اہل تنقیص تو ان کی تکفیر ضرور کی گئی مگر تمہیں توہین کا ملال نہیں تکفیر کا ملال ہے۔ پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں اور زیادہ نہیں تو شیخ نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید اور مولوی اسماعیل دہلوی کی نام نہاد تقویۃ الایمان لے کر کوئی بھی شخص پڑھ لے مسلمانان عالم، سواد اعظم کو بات بات پر مشرک بنایا گیا ہے کاش اگر مفتری مصنف ہوائی باتوں کے بجائے مسئلہ تکفیر کے موضوع پر بعینہ اصل عبارتیں اور حوالہ جات نقل کرتا تو ہم بھی مفصل و مدلل تحقیقی جواب دیتے۔

کیسے کی سزا اور صدمہ کی فریاد:

وہابی قلکار نے صفحہ ۴ پر اعتراف کیا ہے کہ ان کی نام نہاد "الجمین تہذوق الہدیث پاکستان" لے یہ ہے کہ کی سزا میں کر وہ ایسی بھر لے تحت "تین خونی رشتے" کے عنوان سے یہ وہابی پمفلٹ شائع کیا ہے۔

ختم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے

نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

انصاف پسند قارئین غور فرمائیں:

وہابی مصنف نے دل کی بات کہہ دی کہ اس نے اس کتابچہ میں الزام تراشیاں کی ہیں وہ جمعیت اشاعت اہلسنت کراچی کی جانب سے شائع کردہ رسالے "تین سکے بھائی" سے بدحواس ہو کر جذباتی انداز میں ضد و عناد کے ساتھ محض بدلہ لینے کیلئے یہ کتابچہ شائع کیا ہے وہ خود لکھتا ہے یہ کیسے کی سزا ہے اور جمعیت اشاعت اہلسنت والے ان کے عقائد باطلہ کو بے نقاب کر کے ان کو صدمے نہ دیتے تو وہ یوں الٹی سیدھی الزام تراشیوں کی فریاد نہ کرتے۔ بات ختم ہوئی اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بدلہ لینے، دل کی بھڑاس نکالنے کیلئے لکھا گیا ہے باقی قلکار کا یہ کہنا سراسر

خلاف واقع ہے اس میں کچھ حقیقت نہیں وہ ہمارے سر بستہ راز کھولنے اور ہمیں رسوا کرنے میں ناکام و نامراد ہے اور اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو اس کی خوش فہمی ہے ہم تو بفضلہ تعالیٰ اس بد باطن کے افتراءات اور محاندانہ الزامات کی دھجیاں ازار ہے ہیں جس سے خود وہ ہابیوں کے سر بستہ راز کھلتے جا رہے ہیں اور خود ان کی اپنی رسوائیاں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ہم جہل نے کا تحقیقی تعاقب کر کے اس کو اس کے گھر تک پہنچا رہے ہیں۔

کتا بچہ اپنے موضوع کے برعکس:

عام مصنفین و اہل قلم کا طرز بیان اور اسلوب تحریر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موضوع اور عنوان کے تحت لکھتے ہیں لیکن ہمارے مخاطب وہابی قلم کار کا کوئی اصول نہیں اس کا قلم اندھے کی لاشی کی طرح چلتا ہے اور بے لگام ہو کر چلتا ہے مصنف میں شرم حیا اور غیرت ہوتی تو وہ بحوالہ کتب معتبرہ مدلل انداز میں اپنی کتاب کے عنوان کے مطابق اہلسنت و جماعت اور قادیانی مزار نیوں، شیعہ رافضیوں کے ایک جیسے عقائد ثابت کرتا مگر یہ مصنف کا ذہنی خلفشار اور قلبی انتشار ہے کہ وہ کبھی کبھی لکھتا ہے کبھی کبھی کہتا ہے یہ مصنف کی علمی بے بضاعتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے نام پر ہم لہ دائل و شاہد نہیں اسکا اور خود ہی اپنا کذاب و مفتری ہونا ثابت کر دیتا ہے بلکہ ہم بفضلہ تعالیٰ ہر بات بحوالہ کتب تحریر لے لے اس کی کذب بیانیوں کا راز کھلتا ہوا سامنے آتا ہے۔

وہ رضا کے نیزے لی مار رہا ہے کہ مدد لے بیٹے میں غار ہے

کسے چارہ جوئی کا وار نہ کہ یہ دار دار سے پار ہے

غیر مقلد کے حوالہ جات کا تحقیقی تجزیہ علمی محاسبہ:

ہم نے غیر مقلد کی نام نہاد تصنیف کی بنیادی اور اصولی کمزوریاں اور بے اصولیاں واضح طور پر ظاہر کر دیں اب آئیے ہم اس کے الزامات و حوالہ جات کا تحقیقی تجزیہ اور علمی محاسبہ کر کے اس کا ناطقہ بند کرتے ہیں سر تا پا جاہل مطلق نے صفحہ ۵ پر عنوان قائم کیا ہے کہ:-

"شیعیت، بریلویت، مرزائیت"

اس کے ذیل میں لکھا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی..... یہ دعویٰ ہمارا یا ہمارے اکابر کا نہیں

خود غیر مقلدین کا ہے جیسا کہ ہم ابھی آگے چل کر بیان کریں گے مگر اس نجدی قلم کار نے حوالہ کچھ نہیں دیا جس سے ثابت ہوا یہ نعرہ اور دعویٰ ہمارا نہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی۔ البتہ مصنف نے اپنی خردمانی اور بے حیائی سے یہ لکھا ہے کہ:-

"بریلویت کے امام اول کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو ناموں کا وہی انداز اور

سلسلہ موجود ہے جو اہل تشیع کے ہاں رائج ہے امام احمد رضا بن نقی علی خان

بن رضا علی خان بن کاظم علی خان۔" (ص ۵)

ہم اس جاہل و مجہول وہابی رائٹر سے پوچھتے ہیں کہ:-

(۱) کیا نام کا اثر عقیدہ پر پڑتا ہے؟

(۲) مرزائیوں قادیانیوں کے دجال و کذاب نبوت کے جھوٹے دعویدار کا نام غلام احمد ہے اور

منکر حدیث پر دین یوں کے رہنما کا نام بھی غلام احمد پڑا ہے یہ نام مسلمانوں جیسے ہیں تو

کیا یہ مردود مسلمان ہو گئے؟

(۳) محمد کا نام ہے کہ یہ نام احمد رضا بن نقی علی خان۔ رضا علی۔ کاظم علی سادات کرام، اہل بیت

و اطہار آل رسول خاندانہ قبول کے پہلے تھے یا شیعہ رافضیوں کے پہلے تھے اور مسلمان یہ

نام رکھیں گے تو شیعوں کی اتباع میں رکھیں گے یا آل رسول سادات کرام اہل بیت اطہار

کی اتباع میں رکھیں گے.....؟

(۴) معاذ اللہ! اگر یہ نام شیعوں رافضیوں ہی کے ہیں تو کیا معاذ اللہ تم معاذ اللہ ائمہ اہل بیت،

اکابر سادات کرام معوذ باللہ شیعہ تھے.....؟

کچھ تو شرم و حیا کرنی چاہئے۔

غیر مقلد اکابر علماء کے نام:

ہم بحوالہ کتب ثابت کرتے ہیں کہ وہابیوں غیر مقلدوں کے اکابر نام نہاد علماء کے نام

بھی علی بن حسین ہیں کیا یہ سب شیعہ رافضی دشمنان صحابہ کرام تھے؟

ملاحظہ ہو غیر مقلدوں کے ایک بہت بڑے امام نواب الوہابیہ کا نام مولوی صدیق حسن

بھوپالی ہے ان کے والد کا نام حسن اور دادا کا نام علی الحسین اور بیٹے کا نام میر علی اور میر نور الحسن ہے۔ (الشمامہ العنبر یہ کتاب الجید العلوم جلد ۳)

غیر مقلدین کے شیخ اکل کا نام مولوی ڈپٹی نذیر حسین دہلوی ہے غیر مقلدین کے ایک بہت ہی نامور وہابی مولوی کا نام ابوسعید محمد حسین بٹالوی ہے۔ (البریلویہ ص ۲۱ و کتاب الاقتصادی مسائل الجہاد)

قوج کے ایک غیر مقلد وہابی مولوی کا نام رستم علی ابن علی اصغر اور ایک دوسرے مولوی کا نام مولوی غلام حسین ابن مولوی حسین علی مدراس کے ایک وہابی مولوی کا نام مولوی محمد باقر ہے کتاب ہالاربعین میں مولوی عبدالحق غزنوی وہابی نے کئی مولویوں کے نام یہ لکھے ہیں مولوی غلام علی بن الحافظ محمود ص ۲۹، مولوی محمد معصوم مدرس مدرسہ تقویت الاسلام امرتسر ص ۳۰، مولوی محمد علی میر واعظ پنجاب ص ۳۰، مولوی گل حسن ص ۳۲، مولوی محمد حسین ص ۳۸، مولوی شیخ حسین بھوپالی ص ۳۹، مولوی احمد علی مدرس میرٹھ ص ۴۱، مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی ص ۴۲، مولوی محمد معتضت علی ص ۵۱ یہ کتاب مولوی عبدالباق غزنوی غیر مقلد کی تصدیق شدہ ہے اس کے علاوہ اور بہت سے بکثرت وہابی مولویوں کے نام علی۔ حسن۔ حسین وغیرہ پر ہیں لہذا "تین خونی رشتے" کے بے بصیرت مصنف کو چاہئے اپنے ان مارے مولویوں کو شیعہ رافضی دشمن محاب قرار دے۔

سیدنا مجدد اعظم اور روافض زمانہ:

امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنے عہد میں جس قدر رافضیوں کی شیعوں کا ردِ بلیغ و ردِ شدید فرمایا کوئی دوسرا ایسا نظریہ نہیں آتا اگر غیر مقلد وہابی قلم کار اندھانہ ہو تو سیدنا اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ مبارکہ فتاویٰ رضویہ کی بارہ ضخیم جلدوں کا بالغ نظری سے مطالعہ کر ڈالے اس کے علاوہ روافض کے رد و ابطال میں مندرجہ ذیل کتب بھی آپ کا علمی تحقیقی شاہکار ہیں مگر اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔

(۱) غایۃ التحقیق فی امامت العلی و الصدیق (۲) رد الرافضہ

(۳) جزاء اللہ علوہ بابانہ عتیم النبوہ (۴) الادلة الطاعنہ فی اذان الملاعتہ

(۵) الزلال الانقی

الغرض شیعوں رافضیوں کی بد اعتقادیوں کے رد و ابطال میں امام اہلسنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیر کے علم کے مطابق ۱۲۲ ہم کتب اور بے شمار فتاویٰ موجود ہیں کوئی کچھ پڑھے تو پتہ چلے۔

غیر مقلدین کا شیعہ رافضی ہونے کا اقرار:

اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب ہم ایسا زنائے دار حوالہ نقل کر رہے ہیں جس سے غیر مقلدین وہابیہ کی وہابیت نجدیت کا برج الٹ جائے گا اور ان کی اندرونی حقیقی شیعیت رافضیت بے نقاب ہو جائے گی ملاحظہ ہو غیر مقلدین وہابیوں کے مفسر و محدث اور علامہ مولوی وحید الزماں بقلم خود اعتراف و اقرار کرتے ہیں کہ:-

"غیر مقلد ائمہ یث شیعہ ہیں اہل الحدیث ہم شیعۃ علی یحبون اہل بیت رسول اللہ ﷺ ائمہ یث شیعان علی ہیں رسول اللہ ﷺ نے اہلبیت سے محبت و موالات رکھتے ہیں۔" (ہدیۃ الایمان ص ۱۰۰ مولوی وحید الزمان)

ایران اور بریلی:

مگر چونکہ مصنف معاند نے بلا ثبوت ایران اور بریلی کے تعلق کا بھی ذکر کیا ہے اور ریکارڈ و ثبوت پیش نہیں کیا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور غیر مقلدین کے اندرونی حقیقی ولی اتحاد کی نقاب کشائی کر دیں اور سردار غیر مقلدوں کے دل میں چھپی شیعیت رافضیت کا راز طشت از بام کر دیں۔

وہابی مولوی ایران میں:

"۱۹۸۲ میں عالی سیرت کانفرنس تہران میں اتحاد امت کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے گوزنوالہ کے اہل حدیث (غیر مقلد وہابی) مولوی بشیر الرحمن مستحسن نے اپنی تقریر میں کہا کہ:-

"اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ قابلِ قدر ضرور ہے قابلِ عمل نہیں (وہابی شیعہ

کا) اختلاف ختم کرنا ضروری ہے مگر اختلاف ختم کرنے کیلئے اسباب اختلاف کو مٹانا ہوگا فریقین کی جو کتب قابل اعتراض ہیں ان کی موجودگی اختلاف کی بھی کو تیز تر کر رہی ہے کیوں نہ ہم ان اسباب ہی کو ختم کر دیں اگر آپ (شیعہ رافضی ہم وہابیوں سے) صدق دل سے اتحاد چاہتے ہیں تو تمام روایات کو جلانا ہوگا جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب ہیں ہم بخاری (شریف) کو آگ میں ڈالتے ہیں آپ اصول کافی کو نذر آتش کر دیں آپ اپنی فقہ صاف کریں ہم اپنی فقہ صاف کر دیں گے۔
(آتشکدہ ایران ص ۱۰۹ اندیم بک ہاؤس لاہور ۱۹۸۳ء از اختر کاشمیری)

قارئین کرام! دیکھا آپ نے غیر مقلد وہابی نجدی شیعوں رافضیوں سے محبت اخوت و اتحاد کی چٹنگیں بڑھانے کیلئے خفیہ ایران جاتے ہیں اور شیعوں سے اتحاد کرنے کیلئے اتنے بے قرار ہیں کہ حدیث پاک کی عظیم ترین کتاب بخاری شریف تک جلانے کو تیار ہیں ایران کے یہ خفیہ دورے کس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں۔؟

شیعہ "علماء" کے لئے ویزے:

قارئین میرا ان ہوں کے غیر مقلد وہابیوں کے در پر وہ شیعہ رافضی نام نہاد علماء سے ایسے بچے اندورنی تعلقات اور گہری ہم آہنگی ہے کہ غیر مقلدوں کے مابین تائید و حمایت کا کتاب البریلویہ کے مصنف مولوی احسان الہی ظہیر شیعہ علماء کو عرب ممالک کے ویزے تک دلاتے رہے ہیں اس راز کا پردہ فاش بھی خود غیر مقلد وہابی مولوی کرتے ہیں وہابیوں کے مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی غیر مقلد مولوی احسان الہی ظہیر کو مخاطب کرتے ہوئے اور چیلنج دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

"اسی طرح الشیعہ والسنۃ لکھنے کے باوجود شیعہ علماء کے لیے عرب ممالک کے ویزے کے لئے کوشش کرنے..... کو بھی موضوع مبالغہ بنا لیجئے۔
شیعہ علماء کو ویزے دلانے کی کوشش اندرونی اعتقادی مسلکی ربط و تعلق

کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ (حافظ عبدالرحمن مدنی مفت روزہ المحدث ۱۳ اگست ۱۹۸۴ء ص ۷)

نجدیو! وہابیو! غیر مقلدو! یہ ہے تمہارا سر بستہ راز تم اندرونی مضبوط اعتقادی رشتے شیعوں سے رکھتے ہو اور الزام ہمیں دیتے ہو

ترے قول اور فعل میں ہے فرق بعد المشرقین
گو زبان و قلب میں کچھ فاصلہ اتنا نہیں

شاید انہی وہابی النسل پاکستانی غیر مقلدوں کی کوششوں سے وہابیوں سعودیوں کی نجدی حکومت اور ایران کی رافضی حکومت میں گہرے سیاسی اعتقادی رشتے بھی قائم ہو چکے ہیں اور وہابی شیعوں کو مذہبی آزادی ہے اور وہ مجلس بھی کرتے ہیں۔

اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا:

کی شان اقدس میں گستاخی کا ناپاک الزام قائم کرتے ہوئے مصنف نے حدائق بخشش حصہ دوم سے لے کر امام المسند اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ
تک و چست ان کا لباس اور وہ جو بن کا ابھار

مکہ وہابی مصنف نے جانے کون سے عالم میں ہے اسے کچھ خبر ہی نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت اقدس سرہ کے نعتیہ کام کے صرف دو حصے ہیں تیسرا حصہ سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے وصال شریف کے بہت بعد حضرت مولانا محبوب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب مدین پورہ بمبئی نے مختلف شعراء کا کلام جمع کر کے شائع کیا تھا وہ اس وقت ریاست پٹیالہ میں خطیب تھے انہوں نے نامہ پریس نامہ والوں سے چھپائی کا معاملہ طے کیا تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہمارا اپنا کاتب کتابت کرے گا حضرت مولانا نے ان پر اکتفا کر لیا مگر وہ کاتب بد مذہب بد عقیدہ دشمن السنۃ وہابی تھا اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مناقب کے اشعار کے ساتھ غلط کر کے یہ اشعار بھی شامل کر دیئے جو درحقیقت اُم زرع وغیرہ مشرک خواتین کے بارے میں تھے اور جس کا ذکر مسلم

شریف، تربذی شریف اور نسائی شریف وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے مگر مولانا مفتی محبوب علی خان قدس سرہ اس کتابت کی تصحیح نہ کر سکے اور یہ اشعار غلط ترتیب سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منقبت کے ذیل میں خلط ہو کر چھپ گئے مگر اس کے باوجود آپ یہ حصہ سوم اٹھا کر دیکھیں "قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا" کی منقبت کے بعد موٹی سرخی "علیحدہ" لکھ کر درج کئے گئے ہیں جب یہ اشعار علیحدہ کی سرخی کے ساتھ ہیں ہی علیحدہ تو پھر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اقدس میں کیسے ہو گئے؟ اگرچہ کتاب حصہ سوم میں علیحدہ کا لفظ موجود ہے مگر صفحہ ۳۶ کی بڑی سرخی کے ذیل میں ہیں اس لئے وہابی نجدی وغیرہ فرقہ بائے باطلہ عوام کو خواہ مخواہ مغالطہ اور دھوکہ دیتے ہیں یہ ان کی عیاری و مکاری ہے حالانکہ فقیر اپنی کتاب، قہر خداوندی، برق آسانی، محاسبہ دیوبندیت وغیرہ میں بار بار اس کی وضاحت کر چکا ہے اور دوسرے علمائے اہلسنت اور خود حضرت علامہ مفتی محبوب علی خان صاحب علیہ الرحمۃ بھی وضاحت کر کے غلطیوں کا تصحیح نامہ شائع کر چکے نیز سنی رسائل و جرائد میں صحیح صورتحال واضح کر چکے مگر وہابی ہٹ دھرم ضدی قوم ہے یہ ماننے کو تیار نہیں۔ چاہے کوئی ہزار دفعہ تردید کرے کڑوروں بار وضاحت کرے۔ اور پھر کمال یہ کہ اس خالص نبوت کی بنیاد پر لکھتا ہے یہ شیعوہ بن لی پیداوار ہے جو خاص خونی رشتے کی بناء پر ایمان سے بریلی منتقل ہوئی۔ اس کو لیتے ہیں پوری اور سینہ زوری نظر لے اس مقولہ پر عمل ہے کہ:-

"نبوت اس تسلسل اور وثوق سے بولو کہ لوگ سچ کا گمان کرنے لگیں"

بریلویت اور مرزاہیت:

قارئین کرام نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہابی قلمکار ہزار فریب و فراڈ اور چکر بازی و جلسازی کے باوجود سنی بریلوی اور شیعہ رافضی کا خونی رشتہ ثابت نہیں کر سکا اور اپنے دعویٰ کی معقول دلیل نہیں لاسکا اور اس عنوان کو نشہ و ناکام و ناتمام چھوڑ کر صفحہ ۳۶ پر بڑی بے حیائی سے یہ عنوان قائم کر دیا:-

"بریلویت اور مرزاہیت"

آئیے اس عنوان پر بھی اس کذاب و مغتری کا منہ کاا کرتے ہیں جاہل مطلق نجدی وہابی قلمکار اپنا نامہ اعمال سیاہ سے سیاہ تر کرتے ہوئے لکھتا ہے دو بھائیوں کا تذکرہ تو آپ نے پڑھ لیا اب باپ بیٹے کا خونی رشتہ اور باہمی محبت بھی دیکھئے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شرعی معاملات میں معصوم عن الخطاء صرف اور صرف انبیاء کی جماعت ہے..... مگر بریلوی لکھتے ہیں کہ:-

"اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولیٰ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ کے برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔"

نجدی لکھتا ہے کہ:-

دیکھئے کس قدر لطیف انداز میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ (خونی رشتے ص ۷)

ہم کہیں کے مصنف دل کا تو اندھا تھا ہی اس نے اپنا عقل کا اندھا ہونا بھی ثابت کر دیا عقل بھی جو بہت ہو گئی اس کے عقل و شعور اور علم پر جہالت و ضلالت اور بے دینی کا گھناؤنا پتہ اندھا ہوا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو خود مانتا ہے کہ معصوم ہوتے ہیں لیکن اس کے برعکس کتاب انوار رضا کے مرتب نے امام اہلسنت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم نہیں لکھا بلکہ وہ یہ لکھ رہا ہے کہ:-

"اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔"

جاہل مطلق کو معصوم و محفوظ کا فرق بھی معلوم نہیں؟ یہ کیا ختم نبوت پر ڈاکہ ثابت کیا ہے یہ کیا باپ بیٹے کا رشتہ ثابت کیا یہ کیا خونی رشتہ ثابت کیا؟ کیا شرم و حیا اور دیانت کا جنازہ نکل گیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان گستاخوں کا علم سلب کر لیا گیا ورنہ بتایا جائے کیا انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا اولیاء اللہ کے محفوظ ہونے کے ہم معنی وہم مفہوم ہے اور دونوں کی شرعی حیثیت ایک ہے صحیح حدیث سے ثابت کہ دور نہ اہل حدیث کہلانا چھوڑ دو چلو اور کچھ نہیں تو نجدی مہنف صرف اتنا بتائے اور گونگا ہو کر نہ بیٹھ جائے تمہارے مولوی وحید الزماں، مولوی صدیق حسن بھوپالی، مولوی محمد

حسین بٹالوی، مولوی سعید بنارس، مولوی اسماعیل غزنوی، مولوی داؤد غزنوی مولوی عبدالجبار، مولوی ثناء اللہ امرتسری معصوم تھے یا نہیں اگر وہ معصوم تھے تو تم نے اور تمہارے اکابر نے لطیف انداز میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور مرزا قادیانی تمہارا باپ ہوا اور تم اس کے بیٹے ہوئے اور اگر وہ معصوم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان مولویوں کو یا ان کے بعد آجکل کے وہابی مولویوں کو گناہ و خطا سے حفاظت میں بھی نہیں لیا کیونکہ تمہارے ذہن کے مطابق تمہارے مذہب میں گناہ و خطا سے محفوظ ہونا معصوم ہونے کے ہم معنی ہے تو پھر تمہارے جدید و قدیم کبیر و صغیر نے پرانے مولوی گناہ و خطا سے محفوظ نہ ہوئے وہ گناہ و خطا سے مرکب ہوتے رہے تو خود بتاؤ گناہ گار خطا دار مولویوں کی اقتداء میں تمہاری تمام نمازیں باطل اور ضائع ہو کر مردود ہوئیں یا نہیں؟ کیونکہ احادیث مبارکہ میں تو متقی پر بیہکار صالح امام علی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور تمہارے مولوی نہ معصوم ہیں، نہ محفوظ، نہ گناہوں سے ان کی حفاظت ہوتی تو تم گناہ گار عصیاں شعار مولویوں کی اقتداء میں نمازیں کیوں برباد کرتے ہو.....؟

الٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے

دے آدمی کو موت پر یہ بد اولاد دے

وہابیوں کا ختم نبوت پر ڈاکہ:

اے وہابیو! علم سے جاہل، عقل سے کورے..... اتم اہلسنت کو قادیانیت کا ہمنوا کیا ثابت کرو گے ہم ثابت کرتے ہیں کہ خود وہابی نجدی کس طرح ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں چنانچہ بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان لکھتا ہے کہ:-

"اس شہنشاہ (اللہ تعالیٰ) کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں حکم کن سے

چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتے جبرائیل اور محمد ﷺ کے

برابر پیدا کر ڈالے۔" (تقویۃ الایمان ص ۳۶)

یہ ہے قادیانیت و مرزائیت کی فرزندگی اور نمک حلائی اور اعتقادی ہمنوائی و اعتقادی

رشتہ داری معاذ اللہ جب اللہ تعالیٰ کروڑوں محمد ﷺ کے برابر پیدا کر دے گا تو ختم نبوت کا عقیدہ کیسے باقی رہیگا اور حضور پر نور نبی اکرم ﷺ خاتم النبیین کیسے رہیں گے اور پھر جب اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں واضح طور پر فرما چکا کہ:-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

ترجمہ:- محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور

سب نبیوں سے پچھلے (آخری نبی) اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

اب بتاؤ..... اے عقل اور علم اور دین کے دشمنو.....! جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب و

محبوب ﷺ کو آخری نبی قرار دے چکا تو اپنے حکم کی خلاف ورزی کر کے معاذ اللہ کذب صریح کا

ارکاب کیسے کرے گا۔ معاذ اللہ.....! تم معاذ اللہ.....! اگر کروڑوں محمد ﷺ پیدا کرنے کا نظریہ

صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ختم نبوت کا حکم کھلا علی الاعلان انکار ہے جو بلا شک و شبہ ارتداد ہے

ایسا ہے پاؤں نجدی کا زلف دراز میں

لو آب اپنے دام میں صیاد آگیا

الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا:

ممکن ہے وہابی جاہل مستند رائٹر کہہ دے مولوی اسماعیل ہمارا کیا لگتا ہے اور تقویۃ

الایمان ہماری کیا لگتی ہے تو پھر ہم اس کے دونوں کان کھینچ کر مشہور نجدی شیخ احمد عبدالغفور عطار کے

پاس لے چلیں گے وہ اپنے اور ان کے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی سوانح عمری میں صاف

صاف اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ:-

"اگرچہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت سے سرفراز ہو کر خالق حقیقی

سے جا ملے تاہم ان کا مشن پوری سرگرمی سے جاری رہا اور شیخ اہل سید محمد

نذیر حسین محدث، نواب صدیق حسن خان، مولانا داود ایت علی صادق پوری

اور دوسرے اکابر (وہابیہ) نے تجدید احیائے دین کیلئے جان فشانی سے کام کیا۔ (کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ص ۷، تصدیق محمد سلیمان اظہر وتالیف شیخ احمد عبد الغفور عطار ترجمہ (مولانا) محمد صادق خلیل)

اب بتاؤ.....! کدھر بھاگو گے، کہاں امان پاؤ گے، کدھر جاؤ گے.....؟ اب نواب صدیق حسن بھوپالی کی زبان میں اپنے شیخ سنن قاضی محمد بن علی شوکانی قاضی یمن کو مدد کیلئے پکارو

زمرہ رائے در افتاد بار باب سنن
شیخ سنت مدد قاضی شوکان مدد دے

(دیوان نفع الطیب از بھوپالی)

کیونکہ نواب صدیق حسن بھوپالی بھی مشکل وقت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ مدد کہہ کر اور قطب الاقطاب سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا غوث الاعظم کہہ کر مدد نہیں مانگتے تھے بلکہ اپنے پیشوا قاضی شوکانی سے مدد مانگتے تھے۔

اور سنئے :-

بات معصوم ہونے اور شیعوں سے اعتقادی یا خونی رشتہ کی بطنی ہے تو ہم چند مزید ایسے زنانے دار حوالے پیش کرتے ہیں جن سے ان کی عصمت انبیاء پر خدا کے اور ردائش سے اعتقادی رشتہ کا مزید ثبوت فراہم ہوگا۔

دیکھئے! علیہ الصلوٰۃ والسلام یا علیہ السلام کا اطلاق واستعمال حضرات انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین معصومین کیلئے ہے شیعہ رافضی ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں وہ بے دریغ و بے دغدغہ علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہا السلام لکھتے ہیں مگر اہلسنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ الکریم، رضی اللہ عنہا لکھتے اور بولتے ہیں۔ دیکھو فتاویٰ رضویہ و بہار شریعت وغیرہم مگر غیر مقلدین چونکہ اپنے بقول شیعان علی ہیں (ہدیۃ المہدی) اس لیے وہ ائمہ اہل بیت کو روافض کی طرح علیہ السلام لکھتے اور بولتے ہیں۔ دیکھئے صاف صاف لکھا

ہے۔ حضرت امیر (علی) علیہ السلام (الشمامۃ العنبر یہ ص ۱۴۴) علی علیہ السلام ص ۱۲۵، فاطمہ علیہا السلام ص ۱۳۲ (الشمامۃ العنبر یہ از مولوی صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد وہابی) اہل علم و انصاف قارئین کرام اب خود سمجھ لیں اور فیصلہ کریں شیعوں کا طرز عمل کون اپنائے ہوئے ہے اور کس کا شیعوں سے اعتقادی رشتہ ہے۔

عشرہ مبشرہ پر حملہ:

چونکہ وہابی قلعہ کار کی عقل سلب ہو چکی ہے دل و دماغ پر پھنکار پڑی ہوئی ہے سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، ایسی بات شیخ نجدی شیطان مردود کے اثر سے جلدی دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے اس لیے جلیل القدر عظیم المرتبت عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ضمن میں بات کا ہتھکڑ بنا کر لکھتا ہے کہ:-

”مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خوش نصیب صرف دس ہیں جنہیں ان کی زمیں کی بشارت دی گئی لیکن بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اس بشارت میں شامل ہیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ مسجد خیف میں رات کے وقت ٹھہر گئے تھے اور رات کا بڑا حصہ عبادت ریاضت میں صرف کیا تھا اسی رات آپ کو مغفرت کی بشارت ہوئی۔“ (غلیظ کتابچہ ص ۷)

انصاف پسند قارئین بتائیں اس واقعہ میں حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کی اولاد قدسیہ پر کونسا دن دیباڑے حملہ ہوا ہے۔؟

☆ وہابی مردود کو معلوم ہی نہیں حملہ کسے کہتے ہیں اور حملہ کیا ہوتا ہے۔

☆ دوسرا یہ کہ وہابی نے غور نہیں کیا کیونکہ مقصد مفاہدینا اور محامہ لو کر اہل بیت حضرات عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو حضور نبی غیب دان واقف اسرار اہل بیت نے بشارت دی ہے یہ آپ کا خدا داد علم غیب تھا جس کا وہابی فرقہ منکر ہے۔ حضرات صحابہ کرام عشرہ مبشرہ اہل بیت کی

بشارت دی گئی اور امام اہلسنت سیدنا علیؑ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ مسجد خفیف میں مغفرت کی بشارت مذکور ہے جنت کی بشارت اور مغفرت کی بشارت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کی بشارت بھی دی جائے تو کیا شان خداوندی اور رحمت مصطفویٰ ﷺ سے بعید ہے.....؟

وہابی نے لکھا ہے کہ:-

"وہ خوش نصیب صرف دس ہیں جنہیں ان کی زندگی میں زبان اقدس ﷺ کے ذریعہ جنت کی بشارت دی گئی" (غلیظ پمفلٹ ص ۷)

ہم پوچھتے ہیں کیا صرف یہ دس مقدس صحابہ کرام ہی جنت میں جائیں گے ان کے سوا کوئی اور صحابی جنت میں نہیں جاسکے گا؟

اگر تم کہو کہ معاذ اللہ اور کوئی صحابی یا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنت میں نہیں جائیں گے تو تم لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاذ اللہ جہنمی قرار دے کر خود پر لے درجہ کے ناری جہنمی ہوئے اور اگر تم کہو کہ تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے تو پھر تمہاری "صرف" کہاں گئی؟ تم خود اپنے منہ پر تھوک لو ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے بیشک یقیناً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قطعاً جنتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کسی کو جنت کی بشارت دی گئی کسی کا اعتبار نہ فرمایا۔ ہم پوچھتے ہیں تمہارے وہابی علماء اور نجدی پیشوا غیر مقلد رہنما ابن تیمیہ، محمد علی شوکانی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، مولوی وحید الزماں، نواب صدیق حسن بھوپالی، مولوی سعید بناری، مولوی اسماعیل غزنوی، مولوی عبد الجبار غزنوی، مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی، مولوی داؤد غزنوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟

اگر تم کہو یہ سب جہنمی ہیں تم ہم فوراً تسلیم کر لیں گے اور اگر تم کہو یہ سب ملاں جنتی ہیں تو تم ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دینے والے کون ہوتے ہو حضور نبی غیب دان سلطان دو جہاں ﷺ نے تو اس دنیا میں صرف دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دی تھی تم منصب

نبوت و رسالت پر فائز ہو کر اپنے سارے مولویوں کو جنت کی بشارت کیوں اور کیسے دے رہے ہو ایک طرف تو تم منصب نبوت و رسالت پر فائز ہو کر اپنے ساری مولویوں کی بشارت دے رہے ہو اور دوسری طرف تم نے اپنے مولویوں کو معاذ اللہ تم معاذ اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے برابر بنا دیا اور تم نے خود بھی اپنے مولویوں کو جنتی کہہ کر اور دنیا میں بشارت دے کر عشرہ مبشرہ پر دن دھاڑے حملہ کر دیا

شرم تم کو مگر نہیں آتی

ہاں یا تو صاف صاف کہو تمہارے وہابی مولوی جن کا اوپر ذکر ہوا ہرگز ہرگز جنتی نہیں ہیں خاص جہنمی ہیں ورنہ سیدنا مجدد اعظم امام اہلسنت علیؑ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا اور کیوں؟

تمہاری تحقیق اپنے ہاتھوں سے خود ہی خود کشی کرے گی

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

قرآن عظیم کا اعلان حق:

وَلِلّٰهِ انْفُسُكُمْ فَانْقُضُوا انْفُسَكُمْ فَاتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُوْلُ

لَوْجِدُوْا اللّٰهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

ترجمہ:- اور اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اسے محبوب تمہارا

حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت

فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اب بتاؤ وہابیہ! قرآن عظیم سے کہاں بھاگو گے مسلمان گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم

کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بھیج رہا ہے اور وہاں توبہ و استغفار کر کے

معافی طلب کی جا رہی ہیں اور بارگاہ رسالت سے مغفرت اور شفاعت کا پروانہ مل رہا ہے۔ کیا اس

آیت پر ایمان نہیں؟

جاہل مطلق و بے بصیرت وہابی پمفلٹ نگار لکھتا ہے کہ:-

"عشرہ مبشرہ کے سوانہ کسی کو جنت کی بشارت، ناکسی کو مغفرت کی بشارت"

مگر یہ احادیث کثیرہ کے خلاف ہے حضور نبی غیب دان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ان دس مقدس با عظمت جلیل القدر عظیم المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دینے کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ ان کے سوا کسی کو بھی جنت اور مغفرت کی بشارت نہیں اور نہ کوئی جنت میں جائے گا نہ کسی کی مغفرت ہوگی آئیے احادیث شریفہ ملاحظہ ہوں۔

احادیث مبارکہ کا جلوہ:

تمام فوائد اور بزار و ابویعلیٰ مسند اور طبرانی کبیر اور حاکم باقادہ صحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:-

ان فاطمة احصنت محرمها الله وذريتها على النار

ترجمہ:- بیشک فاطمہ نے اپنی حرمت نگاہ رکھی تو اللہ عزوجل اسے اور اس

کی ساری نسل کو آگ (نار دوزخ) پر حرام کر دیا۔" (الحديث)

بتاؤ..... ایہ جنت کی بشارت اور مغفرت ہے یا نہیں؟

ابن عساکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:-

انما سميت فاطمة لان الله فطمها وذريتها عن النار يوم القيمة

ترجمہ:- فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نام اس لئے ہوا کہ اللہ عزوجل نے اسے

اور اس کی نسل کو روز قیامت تک آگ سے محفوظ فرما دیا (الحديث)

آگ سے محفوظ فرمانا، جنت میں جانا اور جنت کی بشارت اور مغفرت ہے یا نہیں.....؟

مغفرت اور دوزخ سے آزادی:

نجدی رائٹر بزم جمہالت کہتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے سوا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس دنیا میں کسی کو بھی جنت و مغفرت کی بشارت نہیں دی کاش کہ جاہل مطلق مشکوٰۃ شریف باب الصوم و

رویہ ہلال دیکھ لیتا آئیے ہم دکھاتے ہیں۔

وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار

یعنی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت، اوسط (درمیان) مغفرت اور آخر جہنمی کی آگ سے نجات ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۷۴)

اب وہابی مصنف کس جہنم میں پڑے گا کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ کسی کے لیے مغفرت کا قائل نہیں اور کسی دوسرے کی مغفرت کو عشرہ مبشرہ پر دن دھاڑے حملہ قرار دیتا ہے۔ تعجب ہے۔ الحمد للہ کھلوا کر حدیث شریف کا حکم کھلا انکار اور حدیث سے فرار ہے یا نہیں؟

شرم تم کو مگر نہیں آتی

بتاؤ.....! سارے مسلمان روزہ دار، طہارت اور جہنم سے آزادی کی اس بشارت میں شامل ہیں یا نہیں؟

اگر ہیں تو پھر مسند خفیف میں امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت پر اعتراض کیا؟

امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما "نوجوانان جنت کے سردار":

سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو حضور پر نور نبی غیب دان سلطان کون مکان ﷺ نے نہ صرف جنتی بلکہ نوجوانان جنت کا سردار ہونے کی بشارت دی مشکوٰۃ شریف میں ہے:-

عن ابی سعید قال قال رسول الله ﷺ الحسن والحسين سيدا شباب اهل

الجنة رواه العرمذی مشکوٰۃ باب مناقب اهل البيت (ص ۵۷۰)

ترجمہ:- حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں

خاتون جنت:

اسی طرح حدیث شریف میں خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ

تعالیٰ عنہا کو تمام جنتی بیبیوں (خواتین جنت) کی سردار قرار دیا مگر وہابی قلمکار احادیث مبارکہ سے جاہل و بے تجربہ کہتا ہے کسی کو جنت کی بشارت نہیں دی گئی حالانکہ سیدہ فاطمہ کو نہ صرف جنت کی بشارت دی گئی بلکہ خواتین جنت کا سردار قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے نجات کی بشارت کی چند احادیث اور پر بحوالہ نقل ہوئیں مگر وہابی قلمکار اس کو حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم پر دن دینھاڑے حملہ قرار دے کر اپنے لیے جہنم الاٹ کروا رہا ہے۔

مادر زادولی اور بچپن کا واقعہ:

کنام وہابی محقق نے بدذہابی اور بے حیائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا موقع بے موقع الٹی سیدھی خرافات اگلتا ہی رہا اور اپنے گستاخ دہن سے بول و براز کی طرح گند اگلتا ہی رہا۔ ایام طفولیت (کمسنی) میں اعلیٰ حضرت امام اہلسنت نے بے پردہ بازاری عورتوں کو پہلی نظر سے دیکھتے ہی فوراً اپنے لمبے کرتہ کا دامن آنکھوں پر کر لیا اور مبارک نظروں کو چھپالیا وہابی اس واقعہ پر سک بد طینت کی طرح یوں بھونکتا ہے کہ:-

"بھلا تین ساڑھے تین برس کا بچہ دل کے بہکنے اور ستر کے بہکنے کے جنسی راز سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے" (ص ۸ کتابچہ مذکورہ)

مگر اعلیٰ حضرت امام اہلسنت قدس سرہ کی یہ روشن کرامت کہ صنف مجہول دو تین سطر پہلے خود اقرار کرنے کے باوجود خود اپنی تکذیب کرتے ہوئے بڑی بے حیائی اور بے شرمی سے خود ہی یوں بکواس کرتا ہے کہ:-

"اعلیٰ حضرت اپنے بچپن ہی سے جنسی امراض میں مبتلا تھے"۔ (ص ۹)

اب وہابی قلمکار کو چاہئے اپنا منہ کالا کر لے اور پرانے جوتوں کے ہار گلے میں ڈال کر ٹاور براستہ بند روڈ مزار قائد تک ایک چکر لگائے اور لوگوں کو بتاتا رہے کہ مجھ پر اعلیٰ حضرت پر الزام تراشی کی پھنکار پڑی تھی میں متضاد و متعارض خرافات بک رہا تھا اس لئے یہ سزا میں نے خود اپنے لیے تجویز کی ہے۔

انصاف پسند قارئین غور فرمائیں کہ وہابی قلمکار دو تین سطر پہلے تو خود لکھ رہا ہے کہ:-
"تین ساڑھے تین برس کا بچہ دل کے بہکنے اور ستر کے بہکنے کے جنسی راز سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے۔"

اور دو تین سطر بعد دوسرے ہی سانس میں لکھتا ہے کہ:-

"اعلیٰ حضرت اپنے بچپن ہی سے جنسی امراض میں مبتلا تھے۔"

ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم

نجدی نے جو بھی بات کی بس واہیات کی

بہر حال اس واقعہ کی تعلیل کیلئے وہابی رائٹر نے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نقل نہیں کی حالانکہ یہ لوگ بیس رکعت تراویح، آمین بالجہر اور رفع یدین پر اپنی رٹی ہوئی حدیثیں موقع بے موقع بھنا شروع کر دیتے ہیں معلوم ہوا کہ اس موضوع پر ان کے پاس کوئی حدیث صحیح تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے۔

مزہ بھی ثواب بھی

صنف نے آخر وہابی رائٹرانڈاز میں مذکورہ بالا عنوان قائم کر کے بھی محض تماشہ کرنا چاہا وہ لکھتا ہے کہ (اعلیٰ حضرت فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ:-

"زین و شہر کا باہم قرن و ذکر کوایت صالحہ (چھوٹا یا ٹٹولنا) موجب اجر و ثواب ہے۔"

پھر لکھتا ہے ہمیں بریلوی ملتہ فکر سے اعلیٰ حضرت کی اس فکر پر تین سوالوں کے جوابات مطلوب ہیں۔

- (۱) کیا اس فتوے سے اعلیٰ حضرت کا مادر زادولی ہونا ثابت ہوتا ہے.....؟
- (۲) ان اعضاء مختلفہ (فرن و ذلر) کو چھونے یا ٹٹولنے سے نیت صالحہ (نیک نیت) کیسے ہو سکتی ہے.....؟
- (۳) کیا کوئی بریلوی یہی عمل کر کے اس کا اجر و ثواب بنیت صالحہ ایصال کے طور پر اعلیٰ حضرت

کی روح کو بخش سکتا ہے.....؟

(غلیظ کتابچہ)

جواباً گزارش ہے:-

(۱) اعلیٰ حضرت امام اہلسنت کو تم مادر زاد ولی تو کسی صورت میں مان ہی نہیں سکتے کیونکہ جب تم حضور پر نور امام الانبیاء کے عظیم الشان معجزات اور بے پناہ فیوض و برکات اور امام الاولیاء سیدنا غوث اعظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار ولا تعداد کرامات و تصرفات کا شرک و بدعت کہہ کر کھلم کھلا علی الاعلان صاف انکار کرتے ہو تو تم سے کوئی توقع نہیں کہ تم امام اہلسنت کے ولی اللہ ہونے کا اقرار کرو۔ ویسے ہم تمہارے اس سوال پر خود تم سے چند سوالات کرتے ہیں:-

☆ پہلا یہ کہ اس واقع میں کوئی بات ولایت کے منصب و عظمت کے منافی ہے زبانی کلامی غلاظت نہ بکھیرنا بلکہ صحیح حدیث سے جواب دینا کہ یہ عبارت فلاں صحیح حدیث کے خلاف ہے اور منصب ولایت کے منافی ہے۔

☆ دوسرا یہ کہ وہابی خود بتائے نکاح اور شادی بیاہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

☆ تیسرا یہ کہ نکاح سنت اور باعث ثواب ہے یا حرام و گناہ ہے؟ (بس اگر نکاح سنت ہے اور بسا اوقات فرض و واجب تو حقوق زوجین کی ادائیگی کی نیت سے میاں بیوی کا باہمی میل ملاپ حرام و گناہ ہے یا سنت و ثواب.....؟

☆ چوتھا یہ کہ اگر حرام و گناہ ہے تو صحیح حدیث سے دلیل اور ثبوت دو۔

☆ پانچواں یہ کہ اگر سنت ہے تو پھر سنت پر عمل مورد طعن و مورد الزام و مورد تسخر کیوں.....؟

☆ چھٹا یہ کہ جب خاوند اور بیوی باہمی میل ملاپ کے وقت ذکر و فرج کے مس کا حق شرعی رکھتے ہیں تو پھر چھوٹے اور ٹوٹے میں کوئی شرعی قباحت ہے اور اس کی شرعی دلیل کیا ہے.....؟ صحیح حدیث سے اس کی ممانعت و حرمت ثابت کی جائے۔

ہمیں افسوس ہے کہ بے حیاء کی بے حیائی کا جواب دینے کیلئے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ:-

☆ تمہارے نزدیک اپنی بیوی منکوحہ سے مجامعت حلال ہے یا حرام اگر حرام ہے تو کیا غیر مقلد بغیر مجامعت کے چھو منتر سے اپنی نسل بڑھا رہے ہیں؟

☆ پھر یہ کام حرام و گناہ ہے تو حرام کار گناہ گار وہابی امام مسجد کیسے بن جاتے ہیں؟

☆ اور اگر میاں بیوی کا باہمی میل ملاپ مجامعت حلال ہے اور سنت ہے تو کیا اس پر ثواب نہیں، اگر نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے

☆ اور اگر ثواب ہے تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے واقع پر اعتراض کیا؟

☆ مجامعت کی صورت میں اپنے اجزائے مخصوصہ کا استعمال ہوتا ہے جبکہ ہاتھ سے چھونایا ٹوٹنا اس کی نسبت کم ہے تو جب وہ کام ہی شرعاً جائز ہے تو یہ اس کی نسبت چھوننا کام ناجائز و حرام اور گناہ کس دلیل سے ہو کیا؟

☆ کیا وہابی مولوی اپنی بیویوں سے بغیر ہاتھ لگانے اور بغیر ذرہ فرج کے استعمال کے مجامعت کرتے ہیں؟

☆ میاں بیوی کے میل ملاپ مجامعت اور حقوق زوجین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

☆ اسی کو چھوڑی کے واپس آ کر کچھ تو جواب دو اور ہاں یہ بھی بتا دینا کہ اگر تمہارے نزدیک نکاح جائز اور سنت ہے حقوق زوجین میاں بیوی کا باہمی میل ملاپ سنت ہے اور سنت کام پر یقیناً ثواب ہوتا ہے اگر تمہارے نزدیک یہ کام سنت اور ثواب ہے تو پھر کیا تم یہ ثواب ابن تیمیہ، محمد علی شوکانی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، صدیق حسن بھوپالی، ڈپٹی نذیر حسین دہلوی، مولوی وحید الزماں، مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولوی ابرہیم میر سیالکوٹی، داؤد غزنوی، اسماعیل غزنوی، عبد الجبار غزنوی، محمد حسین بنالوی، سعید بناری کی روح کو پہنچا رہے ہو.....؟

☆ چلو فاتحہ میں کھانے اور پھل فروٹ نہ رکھو محض میاں بیوی کے باہمی میل ملاپ و مجامعت کا اکیلا ثواب تو تمہیں اپنی دلیل کے مطابق ضرور ضرور اپنے اکابرین کو پہنچانا چاہئے۔ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا

آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

خدائی دعویٰ کا الزام:

بوکھلاہٹ اور بے چینی کے عالم میں انصاف و دیانت اور حقیقت پسندی کو بالائے طاق رکھ کر مفتری مصنف صفحہ ۱ پر سیدنا امام احمد رضا پر خدائی دعویٰ کا سراسر جھوٹا اور ناپاک الزام لگا کر ابدی روسیاء ہی مول لیتا ہوا لکھتا ہے:-

"امام بریلویت اور خدائی دعویٰ"

نواب رام پور کی بیگم بیمار پڑ گئیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر رض (شیعیت) سے توبہ نہ کی تو ماہ محرم میں رام پور میں مر جائے گی نواب رام پور اور بیگم مینی تال چلے گئے مسجد شہید گنجے کا پور کے ہنگامہ کے سلسلہ میں لیغٹینٹ گورنر مسٹر مشن نے نواب کو رام پور بلوایا بیگم ساتھ آئی اور آتے ہی مر گئی (ملخص ص ۹)

اس واقعہ کو وہابی رائٹر اپنی اندھی بصیرت سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدائی دعویٰ سمجھ رہا ہے اور بڑے ذلیل انداز میں بازاری خرافات بک رہا ہے اور پھر لکھتا ہے قارئین کرام نے ملاحظہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے نواب صاحب کی بیگم کے مرنے کا سبب اور جگہ قبل از وقت بتادی اس سے جو کچھ ثابت کرنا مقصود ہے وہ عوام الناس سے مخفی نہیں اس کے برعکس آپ قرآنی نظریہ بھی ملاحظہ فرمائیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

ترجمہ:- بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے مینہ (بارش)

اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے

گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا

خبردار ہے۔ (سورہ لقمان آیت نمبر ۳۴)

اس آیت کے نقل کرنے کے بعد مصنف لکھتا ہے کہ:-

قرآن کا بیان یہ ہے کہ کہاں مرنا ہے یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن بریلویوں نے امام کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کیا یہ دعویٰ خدائی صفات سے متصف ہونے کا نہیں ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کے ہنائی نہیں اور قرآن کی کسی آیت کی مخالفت انکار ہے اور انکار کفر سے خالی نہیں اب عوام الناس خود فیصلہ کریں کہ ایسا شخص امام اہلسنت تو درکنار مسلمان لہانے کا بھی حق رکھتا ہے؟ (غلیظ کتابچہ ص ۱۱)

جواب انراش ہے کہ:-

اذا تم العقل نقص الكلام كلاماً بے ہوش ہونا عقل کا نہ ہونا ہے۔

ہم قطعاً و قریباً سے کہتے ہیں کہ امام اہلسنت سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت قدس سرہ کے نقص و عیوب کے باعث وہابی رائٹر کی عقل چو پٹ ہو گئی ہے ہم اس نے دماغ میں خدیت کے بارے میں لکھا ہے والے پتر سے پتر کا دیتے مگر کیا کریں یہ کتاب علم غیب کے موضوع پر نہیں ورنہ ہم قرآن و احادیث و تفاسیر اور خود غیر مقلد وہابیوں کے گرو گھنٹالوں کی معتبر کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ پانچ علوم اللہ تعالیٰ جل و علا کے لئے خاص ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کریمانہ سے یہ علوم بھی اپنے پیارے محبوب نبیوں رسولوں کو اور اپنے خواص مقبول بندوں کو عطا فرمائے ہیں بلاشبہ بغیر عطا اللہ تعالیٰ ان علوم خمسہ کو غیر خدا کے لئے ماننا یقیناً حتماً قطعاً شرک ہے مگر عطاء الہی ماننا ہرگز ہرگز لغو و شرک نہیں مگر افسوس اور المیہ یہ ہے کہ وہابی قدکار نے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کا ترجمہ بھی اپنی خصوص و ہامانہ گستاخ عقل سے جمہور مفسرین کے خلاف من پسند کیا ہے۔ یعنی "بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔" حالانکہ جمہور مترجمین و مفسرین اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ کا ترجمہ "بے شک اللہ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے" کیا ہے۔ مگر وہابیوں کے لئے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبیوں رسولوں، ولیوں کو کیوں دیتا ہے اس طرح تو

ہمارا فتنہ و شر کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔

اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر احمدی میں لکھا ہے:-

ولک ان تقول ان علم الخمسة وان كان لا يعلمها احدا لا الله لكن يجوز ان يعلمها

من يشاء من محبيه و اوليائه بقريته قوله تعالى ان الله علیم خبير بمعنى الخبر

یعنی:- تو کہہ سکتا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اگر چہ خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے لیکن وہ

اپنے محبین و اولیاء سے جس کو چاہے ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرما دے اس پر قرینہ یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے بے شک اللہ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔

اسی آیت کے متعلق تفسیر صاوی میں ہے:

(قوله وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا) ای من حيث ذاتها واما باعلام الله

للعبد فلا مانع منه كالانبياء و بعض الاولياء قال تعالى و يحيطون بشئ من علمه

الا بما شاء وقال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهره على غيبه احدا الا من ارتضى

من رسول قال العلماء وكذا ولي فلا مانع من كون الله يطلع بعض عباده

الصلحين على بعض هذه المغيبات فتكون معجزة للنبي و كرامة للولي ولذلك

قال العلماء الحق انه لم يخرج نبينا من الدنيا حتى اطلعه على تلك الخس

یعنی:- آیت میں جو فرمایا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس

خود بخود اپنی ذات سے نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نفس کل کی بات جان لے تو اس

سے کوئی روکنے والا نہیں جیسے انبیاء و اولیاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں احاطہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی

معلومات کا مگر جتنے کا احاطہ وہ چاہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے پس نہیں مسلط کرتا ہے

اپنے غیب پر کسی کو مگر جس کو پسند کر لے رسول سے۔ علماء نے فرمایا ایسے ہی بعض ولی پس اس بات

سے کوئی روکنے والا نہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بعض نیک بندوں کو ان پانچ غیب میں سے بعض کا

علم عطا فرمائے تو نبی کے لئے معجزہ ہوگا اور ولی کے لئے کرامت اور انہی لئے علماء نے فرمایا ہے کہ

حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا سے رحلت نہیں فرمائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے

آپ کو ان پانچوں غیبوں پر مطلع فرمایا۔ واللہ الحمد

شرح جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لكن قد تعلم باعلم الله تعالى فان ثمه من يعلمها وقد وجدنا

ذلك لغير واحد كما راينا جماعة علموا متى يموتون و علموا

ما في الارحام حال حمل المرأة و قبله

ترجمہ:- مگر خدا کے بتائے سے کبھی اوروں کو بھی ان پانچ چیزوں کا علم ملتا ہے

بے شک ایسے موجود ہیں جو ان غیبوں کو جانتے ہیں اور ہم نے متعدد اشخاص

ان کے جاننے والے پائے ایک جماعت کو ہم نے دیکھا کہ انہیں معلوم تھا

کب مریں گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانہ بلکہ حمل سے بھی پہلے

جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے۔ اور آج کل تو بڑی بڑی مشینوں اور طبی آلات

کے ذریعہ ڈاکٹر سرجن لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا

ہے یا لڑکی کیا یہ سب شرک ہے؟

یعنی جو کوئی ان پانچ چیزوں میں سے کسی چیز کے علم کا دعویٰ کرے اور اسے حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام کی طرف نسبت دکرے کہ حضور علیہ السلام کے بتانے سے مجھے یہ علم حاصل ہوا تو وہ

بدی اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اس سے روشن ہے کہ رسول اللہ ﷺ پانچوں غیبوں کو جانتے ہیں اور

ان سے جو چاہیں جسے چاہیں بتاتے ہیں۔ واللہ الحمد۔

پھر امام قرطبی نے شرح صحیح مسلم میں، علامہ عینی اور علامہ احمد قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں ایسا

ہی فرمایا۔ علامہ ابراہیم باجوری شرح قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

لم يخرج ﷺ من الدنيا الا بعد ان اعلمه الله تعالى بهذه

الامور (ای الخمسة)

ترجمہ:- رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور ﷺ کو ان پانچوں غیبوں کا علم دے دیا۔
حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات جلد اول مکتوب سرہ صدودہم میں فرماتے ہیں:-
"ہر علم غیب کہ مخصوص بادست سبحانہ خاص رسل را اطلاع می بخشد۔"
یعنی جو علم غیب اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں کو اس پر اطلاع بخشتا ہے۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سورہ جن کی تفسیر میں تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں:
"مطلع نمی کند برغیب خاص خود بچکس را مگر کے را کہ پسندی کند و آں کس رسول باشد خواہ از جنس ملک و خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد ﷺ اور اظہار برغیوب خاصہ خودی فرماید۔"

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔ مگر اس کو جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور وہ رسول ہو خواہ فرشتوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے جیسے حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے خاص غیب پر مسلط فرماتا ہے۔ آپ نے بیان کیا کہ یہ بات حق ہے اللہ تعالیٰ کے خاص غیب ہیں۔

اور حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہما اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ و دیگر برگزیدہ رسولوں کو اپنے خاص غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

نوٹ:- یاد رہے کہ حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی اور امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق قدس سرہما کو اکابرین وہابیہ غیر مقلدین نے ہدیۃ المہدی ص ۹۹ کرامات المہدی ص ۲۲ اور الشمامتہ العنبر یہ میں معتبر مانا ہے لہذا کوئی وہابی غیر مقلد حوالہ جات کا انکار نہیں کر سکتا۔ (محمد حسن علی رضوی بریلوی میلسی)

اگر ہم بطاء الہی حضرات انبیاء و اولیاء کے لئے کتب احادیث و تفاسیر سے دلائل پیش کریں تو یہ کتاب بہت طویل و ضخیم ہو جائے گی۔ بکثرت احادیث سے کل کی بات تو کیا قیامت کا آنا اور قیامت کی نشانیاں بھی حضور پر نور ﷺ نے بیان فرمادیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے بارش کب آئے گی بطاء خداوندی سب کچھ از روئے احادیث محبوبان خدا کے لئے ثابت ہے مگر بے خبر بے خبر جانتے ہیں
"ہدیۃ المہدی" میں قیامت کا علم:-

غیر مقلدین وہابیہ کے پیشوائے اعظم مولوی وحید الزماں نے ہدیۃ المہدی مترجم ص ۱۹۳ پر ایک عنوان "قیامت کب آئے گی" کے تحت حضور نبی اکرم رسول محمد ﷺ کے لئے قیامت کی بکثرت علوم غیبیہ کی خبریں تسلیم کی ہیں۔ اگر ہم مفصل بیان کریں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔

غیر مقلد وہابی مولویوں کو علوم خمسہ:-

انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لئے بطاء الہی علوم غیبیہ علوم خمسہ کو کفر و شرک قرار دینے والے وہابی غیر مقلد اپنے مولویوں کے لئے یہ علوم مانتے ہیں دیکھئے کتابچہ تین خونی رشتے کے صفحہ ۱۱ پر بحوالہ قرآن مجید لکھا ہے کہ "جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا" ملخصاً مکر ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ وہابی مولوی بھی جانتے ہیں کون کب مرے گا ان کے اپنے بقول وہابی مولوی بھی جانتے ہیں لہذا اپنے بقول قرآن عظیم کی رو سے کافر و شرک خود ہوئے۔

کافر ہوئے جو آپ تو میرا قصور کیا

جو کچھ کیا وہ تم نے کیا بے خطا ہوں میں

غیر مقلد وہابی مولویوں کا خدائی دعویٰ:-

سیدنا امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے متعلق وہابی رائٹر نے بیگم نواب رام پور

کے رام پور میں مرنے کی خبر پر بزم جہالت "امام بریلویت اور خدائی دعویٰ" کی سرخی لگا کر سورہ لقمان میں علوم خمسہ کی نفی کی رو سے اس کو کفر و شرک قرار دیتے ہوئے خدائی دعویٰ قرار دیا تھا مگر آئیے ہم ثابت کرتے ہیں یہ علوم خمسہ تو وہابی اپنے مولویوں کے لئے بھی مانتے ہیں اور بقول خود اقراری کافر و مشرک بنتے ہیں۔ دیکھئے مشہور و معروف غیر مقلد وہابی مولوی عبد المجید خادم سوہدروی شاگرد مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اپنے مولوی قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کرامات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:-

"پیالہ میں ایک گیندے شاہ نامی مستانہ فقیر تھا جو ہر وقت شراب میں مخمور رہتا تھا۔۔۔ ایک بار قاضی جی کا ادھر سے گزر ہوا وہ احترام کے طور پر اٹھ بیٹھا آپ نے فرمایا سائیں جی شراب حرام ہے اس سے تائب ہو جائیے اب آپ کے آخری دن ہیں۔۔۔ چنانچہ اس واقعہ سے تین دن بعد وہ انتقال کر گیا اور شیر انوالہ گیٹ کے پاس مدفون ہوا۔"

(کرامات الہجدیہ ص ۲۲، ۲۳)

بتائیے.....! وہابیوں کا اپنے بقول یہ خدائی دعویٰ ہے یا نہیں؟ اور وہابی اپنے ہی فتویٰ سے کافر و مشرک ہوئے یا نہیں.....؟

وہابی مولویوں کو ماں کے پیٹ اور کل کے علم کا دعویٰ:-

وہابی اپنے مولویوں کو وسیلہ بھی مانتے ہیں اور مشکل کشا بھی جانتے ہیں اور حضرات انبیائے کرام اولیائے عظام کے علوم غیبیہ کا انکار کرنے والے اپنے مولویوں کے لئے علوم غیبیہ اور کل کی خبر اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے کا بھی علم رکھتے ہیں ملاحظہ ہو لکھتے ہیں کہ:-

"فضل الدین زمیندار کا بیان ہے میرے پاس کوئی گائے بھینس نہ تھی کہ گھر والوں کو دودھ گھی مل سکتا پاس کوئی رقم بھی نہ تھی کہ گائے بھینس خریدی جاسکتی ایک بوڑھی بھینس تھی جس سے ہم مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ گابھن نہیں

ہو سکتی کیوں کہ بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہے میں نے مولانا (غلام رسول قلعوی وہابی) سے عرض کیا کہ دعا کریں خدا کوئی دودھ گھی کا انتظام کر دے آپ (مولوی غلام رسول قلعوی) نے فرمایا تمہاری وہی بھینس گابھن ہو چکی ہے اور عنقریب بچہ دینے والی ہے وہ مدت تک دودھ دیتی رہے گی تم نکرمت کرو فضل الدین وہابی کا بیان ہے کہ سچ سچ کہ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ بھینس دودھ دینے لگی اور قریباً گیارہ دفعہ اس کے بعد سوئی (بچہ دیا) اور مدت دراز تک دودھ دیتی رہی۔" (کرامات الہجدیہ ص ۱۶)

قارئین کرام غور فرمائیں کہ:-

(۱) فضل الدین وہابی نے اپنے مولوی غلام رسول قلعوی وہابی سے دودھ گھی کے لئے دعا کرائی وہ انٹریکٹ (براہ راست) بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا تھا یہ وسیلہ ہوا۔

(۲) وہابی مولوی نے غیب کی خبر دی کہ وہابیوں کی بھینس گابھن ہے عنقریب بچہ دینے والی ہے اور مدت دراز تک دودھ دیتی رہے گی یہ غیب کی خبریں ہیں اس بات کا علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا اور مدت (طویل عرصہ) تک دودھ دینے کا علم ہے۔

وہابی مولوی کو کل کی خبر اور غیب کا علم:-

لکھتے ہیں: "میاں محمد چنولا ہور میں ایک مشہور (وہابی) سوداگر تھا بیان کرتا ہے کہ:-

"میں نے بہت سے گھوڑے بغرض فروخت کشمیر روانہ کئے مگر تین مہینے گزر گئے کوئی گھوڑا فروخت نہ ہوا میں مولانا (غلام رسول قلعوی وہابی) کی خدمت میں حاضر ہوا (غیر خدا کے پاس گیا) کہ حضرت دعا کیجئے (وسیلہ طلب کیا) بہت نقصان ہو رہا ہے اور مفت کا روزانہ خرچ پڑ رہا ہے (گھوڑے اور ملازم راشن کھا رہے ہیں) آپ (وہابی مولوی) نے فرمایا (کل کی غیب کی خبر دی) میاں ترے گھوڑے والی کشمیر نے خرید لیے ہیں

تین ہزار منافع ملا ہے دوسرے دن خط آ گیا کہ سب گھوڑے
فروخت ہو گئے اور تین ہزار منافع ہوا۔ (کرامات الہدیہ ص ۱۶)
کل کی خبر دے کر کل کی خبر مان کر مشرک ہوئے۔

وہابی مولوی کا علم غیب اور مشکل کشائی:-

ایک وہابیوں کا وہابیت شکن واقعہ اور سینہ:-

”فضل الدین نمبردار مان ضلع گوجرانوالہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک
ساہوکار (دولت مند) سے بارہ سو روپیہ قرض لیا تھا وہ مجھے بہت تنگ کر رہا
تھا چنانچہ ایک بار تو اس نے مجھے (مقدمہ کرنے کا) نوٹس دے دیا میں
(غیر اللہ) مولانا (غلام رسول وہابی) کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی
غربت و ناداری کا ذکر کیا..... آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں جاؤ چار آدمی
ساتھ لے کر اس سے حساب کرو بائیس روپے نکلیں گے..... فضل الدین
وہابی حیران ہوا میں نے ابھی تک اسے دیا لیا تو کچھ نہیں بھلا بائیس روپے
کیوں کر نکلیں گے؟ آپ (وہابی مولوی) نے فرمایا جاؤ تو بائیس روپے
سے زیادہ نہیں نکلیں گے وہ چند دوستوں کو ساتھ لے کر گیا اور ساہوکار
(سیٹھ) سے کہا ابھی کھاتہ لاؤ اور میرا حساب صاف کر لو تو ساہوکار (سیٹھ)
نے بھی نکالی تو دیکھا تو اس کے حساب میں کہیں لکھا ہے فلاں تاریخ کو اتنی
گندم لی۔ اتنا تمباکو وصول ہوا اتنی کپاس آئی علیٰ ہذا القیاس سارا حساب
لگایا تو بقایا صرف ۲۲ روپے نکلے ساہوکار بھی حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا
ہے..... ملخصاً (کرامات الہدیہ ص ۱۵)

قارئین کرام غور فرمائیں یہ حقوق العباد کا معاملہ تھا وہابی اپنی نام نہاد کرامت
(جادوگری) سے بارہ سو روپے ہضم کر گئے یہ علیحدہ بات ہے لیکن وہابی مولوی کو کل کی بات دور دراز
رکھے ہوئے بھی کھاتوں میں بارہ سو کا صرف بائیس روپے ہونے کا علم غیب کیسے ہو گیا؟ یہ سب
خالص شرک اور کفر ہے یا نہیں؟ (کرامات الہدیہ ص ۱۵)

کاش کہ یہ وہابی مولوی صاحب آج زندہ ہوتے تو پاکستان کے ذمہ مختلف ممالک کا
ارہوں ڈالر کا بین الاقوامی قرضہ اور اس کا سود ایک جھکے میں گھر بیٹھے بغیر ادا کئے بے باک کر دیتے
اور تمام بھی کھاتوں اور رجسٹروں میں ۲۲/۲۲ روپے لکھ کر صاف کر دیتے اگر اسی رنگ ڈھنگ کا
کوئی دوسرا مولوی ہو تو وہابیوں کو پیش کر دیتا چاہئے۔

ماں کے پیٹ کا علم:-

وہابی مولوی قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کرامتوں کے ذیل میں لکھا ہے:-
”جب آپ حج کو جا رہے تھے تو فرمایا کہ عبدالعزیز کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا
(یعنی اپنا پوتا) اس کا نام معزالدین رکھنا چنانچہ ایسا ہی ہوا (یعنی لڑکا پیدا
ہوا) (کرامات الہدیہ ص ۲۵)

موت کا علم:-

وہابی مولوی قاضی محمد سلیمان منصور پوری کا علم غیب بھی ہے کہ کون کہاں مرے گا ملاحظہ ہو:-
”جب آپ (قاضی سلیمان) سن ۱۹۳۰ء میں حج کو روانہ ہونے لگے تو نماز
جہد کے بعد فرمایا کہ میرا یہ آخری جمعہ ہے اگر اس اثناء میں کسی کو تکلیف پہنچی
ہو تو کہہ دے میں معافی مانگ لوں گا کئی لوگ تازہ گئے اب آپ واپس نہیں
آئیں گے آپ کو کشف کے طور پر اپنی موت کا علم ہو چکا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا
واپس پر آپ جہاز میں انتقال کر گئے۔ (کرامات الہدیہ ص ۲۵)

مولوی سلیمان روڑوی وہابی کو موت کا علم:-

لکھا ہے:-

”تحصیل سرمہ (ضلع جھار) میں ایک بہت بڑے رئیس اور نواب تھے
ان کی صاحبزادی بیمار ہو گئی کئی علاج کئے افاق نہ ہوا انھوں نے چاہا کہ

مولوی صاحب کو بلایا جائے وہ دم کر دیں گے تو شفاء ہو جائے گی چنانچہ آپ کی طرف آدمی آیا آپ جانے کے لئے تیار ہوئے سواری منگوائی گئی معا آپ نے فرمایا اب جاننا فضول ہے لڑکی کا تو انتقال ہو گیا چنانچہ آدمی جب واپس گیا تو معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت جب مولوی صاحب نے فرمایا تھا اس کی روح قفس غصری سے پرواز کر گئی تھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نص قرآنی کے خلاف وہابی مولوی کو موت کا علم تھا۔

ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے:-

"ایک روز علی الصبح آپ فرمانے لگے تو بھائی آج ہمارے پیرو مرشد (مولوی عبدالبجار صاحب غزنوی) بہشت میں پہنچ گئے..... چنانچہ بعد میں جو اطلاعات آئیں ان سے معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت اسی دن امام (مولوی عبدالبجار صاحب) کا انتقال ہوا جس دن مولوی (سلیمان روڑوی) صاحب نے علی الصبح ہم سے کہا تھا۔" (کرامات الہدیث ص ۲۱)

لو صاحب! وہابی مولوی کو نہ صرف موت کا علم ہو گیا بلکہ تین تین دنوں پہلے سے بتا دیا کہ وہابی مولوی کی وفات ہو جائے گی۔

تدفین، عذاب و قیام قیامت بل صراط و میزان کی منزلیں طے کئے بغیر ایک دم بہشت میں دیکھ لیا، یہ ہے وہابی مولویوں کی وسعت علم غیب کا حال اب پڑھو:-

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

امام الانبیاء ہونے کے دعویٰ کا الزام لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کا انعام:-

وہابیوں پر جھوٹ بولنے اور لکھنے کی کچھ ایسی پھنکار پڑی ہے کہ عنوان خواہ کچھ بھی ہو اپنے جھوٹے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لئے جھوٹ ضرور بولیں گے اپنے اس نصب العین کے

تحت وہابی رائٹر صاحب نے ملفوظات اعلیٰ حضرت سے مندرجہ ذیل عبارت نقل کر کے کس قدر شرمناک جاہلانہ سراسر خلاف واقع غلط تاثر دیا ہے۔ عبارت یہ ہے

"مولوی سید امام احمد صاحب..... خواب میں زیارت اقدس ﷺ سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے عرض کی یا رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا برکات احمد کے جنازہ کی نماز پڑھنے الحمد للہ یہ جنازہ مبارکہ میں سے پڑھایا۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۷۲ مطبوعہ لراچی)

جواباً گزارش ہے کہ:-

وہابی جی سے ارادی و غیر ارادی طور پر جھوٹ سرزد ہو ہی جاتا ہے اس واقعہ میں مولوی سید امام احمد لکھتا ہے "واللہ صبح نام مولوی سید امیر احمد صاحب ہے اور اصل ان کے نقل کردہ الفاظ "امام الانبیاء ہونے کا دعویٰ" یہ سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عبارت میں ہیں ہی نہیں خود وہابی رائٹر کی نقل کردہ عبارت کوئی منصف مزاج پڑھ سکتا ہے کہ کہاں اور کن الفاظ میں "امام الانبیاء" ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا اصل جواب تو لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ہی ہے۔

دوم یہ کہ وہابی صاحب اس حوالہ کے ذیل میں نمک مرچ لگا کر یہ غلط تاثر دیتا ہے کہ:-

"میرے مسلمان بھائیو! آپ غور فرمائیں کہ کس طرح ناموس رسالت پر

دیدہ دلیری کے ساتھ ڈاکہ ڈالا گیا ہے..... بتایا جائے شان رسالت میں

گستاخی کس چیز کا نام ہے۔" ملخصاً

وہابی صاحب منہ چڑانے نقل اتارنے ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے اور شان

رسالت میں گستاخی قرار دینے سے پہلے اپنے وہابی مذہب کا جنازہ نکالو اور اپنی عقل کا ماتم کرو اور

پہلے یہ تسلیم کر دو کہ واقعی حضور پر نور نبی اکرم ﷺ حیات حقیقی حسی دنیاوی زندہ ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کو یہ علم غیب ہے کہ میرا کون امتی کہاں فوت ہوا ہے۔ کس وقت فوت ہوا ہے کس وقت نماز

جنازہ ہوگی۔ پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ بعد از وصال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں جلوہ آرائی فرما سکتے ہیں یہ سب فضیلتیں تسلیم کر کے پھر گستاخی اور توہین اور ڈاکہ ڈالنے کا الزام لگاؤ۔ عقل کے دشمن اور سچائی کے مخالفو! جب تمہارے کتاب التوحید اور تقویۃ الایمانی مشرکانہ مذہب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فضیلتیں یہ عظمتیں حاصل ہیں ہی نہیں، یعنی نہ وہ اپنی قبر انور میں بحیات حقیقی زندہ ہیں، نہ انہیں معاذ اللہ اپنے غامدوں اور معیوں کے انتقال کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کی خبر ہے، نہ وہ بعد از وصال اپنی قبر انور سے نہیں تشریف لے جاسکتے ہیں، نہ کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر یہ ناموس رسالت پر ڈاکہ اور شان رسالت میں گستاخی کیسے ہوگئی.....؟

اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں "امام الانبیاء کی امامت کا دعویٰ" کے یہ الفاظ عجیبہ دکھاؤ ورنہ ڈوب مرو۔

وہابی صاحب نے محض مغالطہ دینے اور الٹا چکر چلانے کے لئے ناموس رسالت پر ڈاکے اور شان رسالت میں من گھڑت گستاخی کا فارمولا گھربٹھے تیار کر لیا وہابی اپنی کتابوں رسالوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر اور بڑا بھائی قرار دیتے ہیں کیا یہ بے ادبی گستاخی نہیں؟ وہابی قلم کار نے دراصل یہ سمجھا کہ حضور اقدس سید عالم ﷺ سب کہیں کی نماز میں شرکت فرمائیں گے تو وہ ہماری طرح مقتدی بن کر پیچھے ہی کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے حضور پر نور نبی اکرم رسول محترم ﷺ کی یہ شان ہے کہ امام امامت کروا رہا ہے عین اس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائیں جب جماعت ہو رہی ہے تو آپ امام کے امام ہوں گے اور نماز پڑھانے والا امام آپ کا مقتدی ہوگا۔

بخاری شریف اور مدارج النبوة میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایام علالت میں ایسے وقت تشریف لانے کا واقعہ درج ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کنا نفتدی بابی بکر و ابوبکر کان یفتدی

ہر رسول اللہ ﷺ یعنی ہمارے امام ابوبکر صدیق تھے اور ان کے امام امام الانبیاء ﷺ تھے اور پھر یہ خواب کا واقعہ ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس عالم میں جلوہ گری فرمائی اسی عالم میں نماز جنازہ پڑھی۔ سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسے مقبول بارگاہ الہی اور محبوب بارگاہ رسالت پناہ بزرگ جناب مولوی برکات احمد صاحب قادری کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جلوہ آرائی فرمائی۔ پھر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے اور یہ خواب عین اسی وقت تو مولوی سید امیر احمد صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا جس وقت جنازہ کی نماز پڑھائی جا رہی تھی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس عالم ظاہری میں نماز جنازہ پڑھا رہے تھے یقیناً یہ خواب نماز جنازہ سے آگے پیچھے نظر آیا ہوگا تو پھر یہ مفروضہ اس میں کہاں سے کود پڑا کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معاذ اللہ نماز پڑھائی اور معاذ اللہ حضور علیہ

الصلوٰۃ والسلام میرے مقتدی تھے اور میں ان کا امام تھا

اپنی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے

دے موت خدیوں کو پر یہ بد ادا نہ دے

اور پھر خدی وہابی فریب و فراڈ سے کام لینے کی بجائے خود یہ بتائے کہ حضور نبی اکرم رسول محترم ﷺ اور دیگر انبیاء علیہم السلام اپنی مقدس قبر میں بحیات حقیقی زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ مسراج کے سفر پر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے براق برق رفتار کا ملک مصر سے گزر رہا تو متعدد کتب احادیث میں ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے (الحدیث) اور ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور امام بیہقی نے کتاب حیات الانبیاء میں روایت کی ہے کہ:-

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی ﷺ قال الانبیاء

احیاء فی قبورہم یصلون

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں۔

تو ثابت ہوا یقیناً ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ بھی اپنی قبر انور و رضہ مطہر میں نمازیں پڑھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور نجدی وہابی قلمکار پر اس کا جواب لازم ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قبر انور میں نمازیں پڑھتے ہیں تو قبر انور مسجد نبوی ہی کے ایک حصہ میں ہے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور اقدس ﷺ مسجد نبوی کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر وہابی کہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو پھر ناموس رسالت پر ڈاکہ اور شان رسالت میں گستاخی کے الزامات خود وہابیوں اور وہابی قلمکار پر لگتے ہیں اور وہابی قلمکار اپنے اصول پر خود بے ادب گستاخ اور توہین رسالت کا مرتکب قرار پاتا ہے اور پھر یہ بات اور یہ الفاظ سیدنا اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہیں ہی نہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام تھے اور سرکارِ دو عالم ﷺ مقتدی "خان مصنف کی دغا بازی کے یہ الفاظ ملفوظات میں ہیں ہی نہیں۔

(معاذ اللہ) خدا کی شادی کی کہانی افتراء و بدزبانی عبارت میں کھینچا تانی:-

وہابی وہ نابکار نسل ہے کہ اللہ تعالیٰ سبوح و قدوس کی شان میں تحقیر آمیز گستاخانہ الفاظ کے استعمال سے باز نہیں آتی وہابی قلمکار بہر حال بریلویوں کو نیچا دکھانے اپنے اکابر کی ذلتوں کا بدلہ لینے کے لئے ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ ۱۳ سے عبارت تو یہ نقل کرتا ہے:-

"حضرت سیدی موسیٰ سہاگ مشہور مجاذیب میں سے تھے احمد آباد میں ان کا مزار شریف ہے میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں زمانہ وضع رکھتے تھے ایک بار شدید قحط پڑا بادشاہ قاضی واکا بر جمع ہو کر حضرت (موسیٰ سہاگ) کے پاس دعا کے لئے گئے (وہ) انکار فرماتے رہے میں کیا دعا کےائق ہوں جب لوگوں کی آہ و زاری حد سے گزری تو ایک پتھر اٹھایا دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فرمایا مینہ بھیجے یا اپنا سہاگ لیجئے یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اتر آئیں جل

تھل بھر دیئے۔" (غلیظ کتابچہ ص ۱۳)

قارئین کرام! اس عبارت کو بار بار بغور پڑھیں اور دیکھیں اس عبارت میں کہیں "خدا کی شادی" کا لفظ ہے؟ جاہل و مجہول مصنف بس سہاگ کے نام سے تڑپ اٹھا اور ٹھوکر کھا گیا۔ مگر ہمیں بتایا جائے کہ سہاگ کا معنی معاذ اللہ خدا کی شادی لغت کی کس کتاب میں لکھا ہے؟

اب جب کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے تو خدا کی شادی کے الفاظ استعمال نہیں کئے تو ایسے الفاظ شان الوہیت میں استعمال کرنے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان ہوئی نسبت کرنے کا دہال و عذاب وہابی قلمکار پر دنیا و آخرت میں ضرور نازل ہوگا۔ باقی وہابی صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے حضرت سیدی موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ مجذوب تھے مجذوب کا معنی عامہ لقب لغت میں خدا کی محبت میں غرق اور مست لکھا ہے دیکھو فیروز اللغات ص ۵۹۹ اور غیر مقلدوں کی معتبر ترین کتاب کرامات الہمدیث میں ص ۲۳ دیکھو پر چند بار مجذوب بزرگوں کا ذکر مرقوم ہے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس وقت ہم ان مجذوب بزرگوں میں سے صرف ایک کا مختصر ذکر کرتے ہیں جن کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لئے بطور نذر و نیاز کھانا لے کر غیر مقلدین وہابیہ کے عظیم پیشوا قاضی سلیمان منصور پوری ان کی خدمت میں حاضر ہوئے چنانچہ کرامات الہمدیث "نانی کتاب میں لکھا ہے کہ:-

"قاضی عبدالرحمن صاحب پٹیالوی کا بیان ہے کہ ناٹھہ میں ایک مستانہ فقیر تھا جو بالکل تنگ دھڑنگ رہتا تھا اور مجذوب تھا کسی نے قاضی (سلیمان منصور پوری) سے اس کا ذکر کیا آپ نے اسے ملنے کا ارادہ فرمایا کہ کل چلیں گے اور اس کے لئے (بطور نذر و نیاز) کچھ کھانا بھی لے جائیں گے چنانچہ جب آپ (وہابی قاضی سلیمان) گئے اور ابھی اسٹیشن سے اترے ہی تھے کہ اس (مجذوب بزرگ نے دور ہی سے) کہتا شروع کیا کپڑے لاؤ کپڑے لاؤ ایک بزرگ آ رہا ہے..... چنانچہ قاضی جی کے پہنچنے سے

پہلے ہی اس نے کپڑا اوڑھ لیا جب آپ پہنچے تو نہایت مکرم سے پیش آیا اور دیر تک سلوک اور علم کی باتیں کرتا رہا کھانا بھی کھایا..... پھر جب آپ تشریف لے گئے تو اس (مہذب) نے کپڑے اتار پھینکے اور اسی طرح دیوانہ ہو گیا۔" (ملخصاً کرامات الہمدیث ص ۲۳)

دیکھ لو ایہ ہے مہذب بزرگ کا علم و معرفت کہ وہ اپنی قاضی کو آنے سے پہلے اسٹیشن ہی پر سے جان گئے اور ان سے روحانی سلوک اور علم کی باتیں کرتے رہے قاضی صاحب نے ان مہذب کو سمجھایا نہیں، نگار ہنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس کو کھانا کھلایا کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مہذب ہے، خدا کی محبت میں غرق ہے، بے خودی کی حالت طاری ہے، خدا کی یاد میں مستی اور دیوانگی ہے ایسے پر شرعی مواخذہ نہیں کیا جاسکتا۔

خداوند کے روپ میں :-

مصنف نے اپنے معاندانہ کتابچہ کے صفحہ ۱۳، ۱۴ پر ان ہی مہذب موسیٰ سہاگ کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں اور وہی تباہی بکی ہے کہ حضرت موسیٰ سہاگ مہذب نے کہا "اللہ اکبر میرا خاوند جی لایموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا" اول تو یہ الفاظ کہنے اور اس کی تائید و تصدیق کرنے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نہیں ہیں نہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا کیا جادو ہے وہ مہذب کا بطور واقعہ قصہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں جو حقیقی مہذب ہو گا وہ ہرگز ہرگز شریعت کا مقابلہ نہ کرے گا اور پھر اس بزرگ مہذب کے منہ سے جو ٹکلا خاوند جی لایموت تو خاوند کا معنی عامہ کتب لغت میں مالک اور آقا بھی ہے محض شوہر نہیں کیا وہابی قلم کار حضرت موسیٰ سہاگ کے دل کی بات جانتا ہے کہ انھوں نے شوہر کے معنی میں خاوند کہا عین ممکن ہے انھوں نے مالک اور آقا کے معنی میں کہا ہو پھر جہاں ذومعنی الفاظ ہوں وہاں فتویٰ نہیں لگتا اور یہاں تو دو معنی اچھے ہیں یعنی آقا اور مالک فیروز اللغات ص ۲۹۳ اور پھر یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا اپنا واقعہ اور اپنا عقیدہ نہیں وہ تو محض ناقل اور راوی ہیں اور وہابی قلم کار نے بھی حضرت موسیٰ سہاگ پر تو کوئی فتویٰ

لگایا نہیں اور امام اہلسنت کے خلاف زبان طعن دراز کر دی۔

حقہ کے وقت شیطانی صحبت :-

جاہل مطلق وہابی رائٹر نے اپنی خردماغی سے سیدنا امام اہلسنت کے ملفوظات کے ان الفاظ پر بھی مراٹھانہ انداز میں تمسخر اڑایا ہے کہ :-

میں شیطان کو بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک پان کھاتے وقت بسم اللہ اور چھالیہ منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا طحاوی میں اس سے ممانعت لکھی وہ (شیطان) خبیث اگر شریک ہوتا ہو تو ضرور ہو پاتا ہوگا (جاہلانہ کتابچہ ص ۱۶)

حالانکہ لفظ "ضرر ہو پاتا ہوگا" ہے۔

جواباً گزارش ہے :-

کہ یہاں وہابی قلم کار نے جدی پستی عادت و فطرت سے مجبور ہو کر لایعنی خرافات اگلی جہاد اور سیدنا امام اہلسنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی مختصر عبارت کے نقل کرنے میں تین قاش غلطیاں کی ہیں بلکہ سید جی سی بات کا اپنے اندرونی فساد قلب کی وجہ سے غلط فہم ہو کر رقم کیا ہے اور بلا وجہ بات کا بٹکڑ بنایا ہے سیدنا اعلیٰ حضرت کھانے پینے کی حلال و طیب تمام چیزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے مگر حقہ استعمال کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے اول تو یہ بات حدیث شریف کی مشہور کتاب طحاوی شریف سے ثابت ہے دوم شیطان مردود کو جلانا مقصود ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہ کھایا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے مگر حقہ کے استعمال کے وقت شیطان مردود کو جلانا مقصود ہے اس لئے بسم اللہ شریف نہ پڑھنا اس کو جلانا ہے احمق مصنف کو برا لگا یہاں شیطان سے اس کا قلبی لگاؤ اور اندرونی اتحاد و موافقت محسوس ہوتی ہے اس کو منظور نہیں کہ شیطان حقہ میں شامل ہو کر جلے اس لئے شیطان کی خیر خواہی میں اندھا دھند اعتراض جز کر اپنے بدھو ہونے کا نقد ثبوت فراہم کر دیا بیچ

ہے جہاں وہابیت ہو وہاں سے علم و عقل رفو چکر ہو جاتے ہیں ولکن الوهابیہ قوم لا یعقلون اور پھر وہابی مصنف کی بے عقلی کا تماشا قارئین کرام ملاحظہ کریں کہ اپنے زعم جہالت میں تمباکو کو حرام بھی کہہ رہا ہے اور تمباکو پیتے وقت حرام شے پر بسم اللہ بھی پڑھنا چاہتا ہے۔

الئی عقل کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے

دے نجدیوں کو موت پر یہ بد ادا نہ دے

مصنف میں ہمت و جرأت ہے تو وہ قرآن و حدیث کی صحیح نصوص سے تمباکو کا حرام ہونا ثابت کرے یہاں یہ بات بھی مسلمانان عالم کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف تو وہابی قلکاز زور زوری تمباکو کو حرام قرار دے رہا ہے لیکن دوسری طرف وہابیوں کے سرکردہ اکابر بڑے بوڑھے صاف لکھتے ہیں

"شراب ناپاک و نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے" (بدور الابلہ ص ۱۵ و دلیل

الطالب ص ۴۰۴ و عرف الجادی ص ۲۳۵)

جب شراب ناپاک و نجس نہیں تو پھر وہابی دواوی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر

شراب نوشی کرتے ہوں گے.....؟

عشق رسول کا بھانڈا پھوٹا:-

صفحہ ۱۵ پر یہ قطعاً غیر مانوس و غیر مہذب جاہلانہ انداز سے سرخی لگ کر مکتوبات اعلیٰ

حضرت سے نقل کیا ہے کہ:-

"سیدی محمد بن عبدالباقی (زرقانی) فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی قبور

میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی

فرماتے ہیں:-"

علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی قدس سرہ کے شرح زرقانی جلد ۶ صفحہ ۱۶۹ کے اس حوالہ

پر بازاری انداز میں دریدہ دہنی کا مظاہرہ کیا گیا حالانکہ ہم قبر خداوندی، برق آسانی، محاسبہ

دیوبندیت اور برہان صداقت میں بار بار اس اعتراض کا جواب دے چکے ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت سیدنا امام احمد رضا قدس سرہ مکتوبات حصہ سوئم میں صفحہ ۲۸ پر لکھتے ہیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لئے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو دپسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے، اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے، نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ:-

"انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی

ہیں وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔"

اگر مصنف یہ پوری عبارت نقل کر دیتا تو اس کی بے ایمانی اسی کے دھماکہ کی زد میں آ جاتی۔ اسے ازواج مطہرات کی گستاخی سے کوئی سروکار نہیں یہ ایک حقیقت ہے جب یہ لوگ انبیائے کرام علیہم السلام کی گستاخی نہیں سمجھتے تو ازواج مطہرات کی گستاخی کو گستاخی کیسے سمجھیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس ایمان افروز ارشاد سے اس کا تقویٰ والا ایمانی دھرم خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ انا میل قاتل مر کے مٹی میں ملنے کے قاتل ہیں اور اعلیٰ حضرت کا ایمان افروز ارشاد حیات انبیاء علیہم السلام کی عکاسی کرتا ہے جو اس کے لئے حیر و شتر کا حکم رکھتا ہے اب اگر یہ علی الاعلان حیات انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتا تو برملا اس کی گستاخی و بے ایمانی کا اظہار ہو جاتا۔ لہذا اس نے بڑی عیاری سے ازواج مطہرات کی گستاخی کا بہانہ بنا کر حیات انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا ہے۔

اور پھر مصنف کتابچہ کو اتنی شرم نہیں کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اپنی طرف سے کوئی

بات نہیں فرمائی اور صاف لکھا ہے کہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی (صاحب شرح مواہب لدنیہ)

فرماتے ہیں:-

(ويفضاجع ازواجه ويستمتع بهن اكمل من الدنيا)

ترجمہ:- نبی کریم ﷺ دنیا سے بھی اکمل طریقے پر اپنے ازواج مطہرات سے مضاجعت فرماتے ہیں اور ان سے مستمتع ہوتے ہیں۔

(شرح زرقانی جلد ۶ المصنوع السادس، النوع الثالث ص ۱۶۹، المطبعة الادبیة المطبعة الاحمدیة المرمیة ۱۳۲۷ھ)
لہذا اعلیٰ حضرت تو صرف ناقل ہیں اگر کوئی اعتراض تھا تو علامہ امام زرقانی پر ہونا چاہئے تھا نہ کہ اعلیٰ حضرت پر لیکن مصنف نے نہ اعلیٰ حضرت کے پیش کردہ حوالہ کو جھٹلایا نہ اس کا انکار کیا نہ علامہ زرقانی کے اس نظریہ کو غلط ثابت کیا اور اندھا دھند اعلیٰ حضرت کے خلاف اپنی خرافاتی توپ کا دھانہ کھول دیا۔ اگر شب ہاشی کی صورت بھی ہو تو اس میں وجہ اعتراض کیا ہے.....؟
جب انبیاء علیہم السلام حیات حقیقی زندہ ہیں اور پھر شب ہاشی کا لفظ بھی عام ہے اور اس کا معنی فیروز اللغات ص ۴۱۰ پر رات رہنے کو لکھا ہے۔ شب ہاش رات رہنے والا ہے۔ شب ہاشی باہمی ملاپ ہی کو مستلزم نہیں ہے اور اگر یہی صورت مراد لی جائے تو کیا جنت میں ایسا نہیں ہوگا؟ اور کیا قبور انبیاء و روضتہ من ریاض الجنة نہیں ہیں؟

شب ہاشی اور عرب کے نجدی شیوخ:-

غیر مقلدین وہابیہ کا مفت روزہ ترجمان "الاسلام" لاہور اپنے مہمان نجدی شیوخ کے متعلق لکھتا ہے "عرب شیوخ کی شب ہاشی کا انتظام ملتان روڈ پر کیا گیا تھا۔" مفت روزہ الاسلام لاہور ۲۳ ربیع الاول سن ۱۴۰۲ھ) اب وہابی قلم کار خود بتائے وہابی نجدی شیوخ کی شب ہاشی کرنے کرانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارے شیوخ بھی کبخر پنا کرتے رہے؟

بزرگوں کے مزار یا زنا کے اڈے:-

مصنف نے حضرت سیدی عبدالوہاب شعرانی اور مصر کے عظیم روحانی پیشوا کے ایک کنیز کے ہبہ کرنے پر بازاری انداز میں مذاق اڑایا ہے کنیز کو لڑکیاں قرار دے دیا اور ہبہ کو چڑھاوا سمجھ لیا اور سیدی امام عبدالوہاب شعرانی اور سیدی احمد کبیر بدوی کے واقعہ کو امام اہلسنت اعلیٰ

حضرت کے ذمہ لگا کر اس کو زنا کا اڈا بنایا اور اپنی جہالت سے اس کو بریلویوں کا مستقبل مذہب قرار دے کر دجل و فریب کا ارتکاب کیا۔

یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا واقعہ یا کوئی من گھڑت کہانی تو نہ تھی وہ تو صرف ناقل ہیں۔ کیا اس ساری زبان درازی اور لغو گفتگو کی زد براہ راست علامہ امام شعرانی اور آپ کے پیر و مرشد سیدی احمد کبیر بدوی پر نہیں پڑتی۔ اعلیٰ حضرت کے بغض و عناد میں یہ لوگ کہاں کہاں تک ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ مصنف نے نہ تو نقل پر اعتراض کیا نہ حوالہ کا انکار کیا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلاف بکواس بازی شروع کر دی۔ اس مہارت پر عنوان "مزاروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا" بھی اپنے ذیل کے مضمون سے یکسر مختلف ہے۔ عنوان میں تو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ مزاروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا چڑھتا ہے لیکن ذیل میں کنیز کے ہبہ کرنے کا ذکر ہے۔ شرعی باندی کا ہبہ کوئی دلیل شرعی سے ناجائز ہے۔ یہ تو خدائے قہار کا قہر و غضب ہے کہ وہابی قوم سے علم سلب کر لیا گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی خیانت اور کتنا بڑا ڈاکہ ہے کنیز شرعی باندی کو تو لڑکی بنا دیا اور ہبہ کرنے کو چڑھاوا قرار دے دیا اور بے ایمانی کے اس جوڑ توڑ کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ذمہ لگا کر بریلویوں کا مستقل مذہب قرار دیا۔ مزاروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں اختصار مانع ہے ورنہ وہابی کتب کی روشنی میں ہبہ کے مسائل اور کنیز (شرعی باندی) کے احکام تفصیل سے بیان کرتے حدیث شریف صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک کنیز آزاد کی تھی جب حضور اقدس ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے حضور کو اس کی اطلاع دی فرمایا اگر تم نے اپنے ماموں کو ہبہ کی ہوتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ یہ واقعہ سیدی علامہ امام عبدالوہاب شعرانی کا ہے جن کے متعلق مشہور غیر مقلد وہابی مولوی محمد ابراہیم میرسیا لکھتا ہے کہ:-

"امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ آپ شافعی المذہب تھے شریعت و

طریقت ہر دور کے جامع تھے مجھ کو ان سے کمال عقیدت ہے مصر میں آپ

کی قبر کی زیارت کی اور فاتحہ پڑھی" (تاریخ المحدثین ص ۳۸۶)

وہابی قلم کار جن بزرگ پر زنا کا الزام لگا رہا ہے ان کے اکابر ان کو امام اور شریعت و

طریقت کے جامع مان کر ان قبر کی زیارت کر رہے ہیں اور ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ مولوی ابراہیم میرسیا لکھوئی کو جہنم کے کون سے طبقہ کا ٹکٹ دلواد گئے؟ اور کیا فتویٰ لگاؤ گئے۔

یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر

اپنے بیگانے ذرا پہچان کر

دائرہ انسانیت سے خروج یا وہابی مصنف کی کج روی:-

وہابی قلم کار اتنا حواس باختہ ہو چکا ہے اور اس کی عقل اتنی پوٹ ہو گئی ہے اسے وہابیت کے گستاخ آمینہ میں ہر بات الٹی نظر آتی ہے یوں کہ:-

جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو

صفحہ ۱۸ پر اپنی عقل ماری کا یوں ثبوت فراہم کرتا ہے اور "دائرہ انسانیت سے خروج"

کی سرخی جما کر لکھتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا

تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

(صدائق بخشش جلد ۱ صفحہ ۱۳۳)

پھر لکھتا ہے کہ:-

"اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں جو کچھ فرمایا سچ فرمایا"..... ملخصاً ص ۱۸

جواباً گزارش ہے کہ یہ بھی گستاخ وہابی کا فساد قلب اور ریکارڈ جہالت و حماقت ہے کہ

وہ حقیقی و مجازی نسبتوں کو نہیں سمجھتا جو ان الفاظ کو تو اضعا بطور انکساری اپنے متعلق کہتا لکھتا ہے اندھا مصنف اس کو حقیقت پر محمول کرتا ہے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے آقا و مولیٰ جلا و ماویٰ سرکار رسالت کے وفادار غلام اور ان کی عظمتوں کے پہرہ دار ہیں جو حضور اقدس ﷺ کی توہین و تنقیص کرے تو حید کے نام پر توہین کرے گستاخیاں کرے ان پر جھپٹتے ہیں بایں معنی سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بارگاہ رسالت میں عجز و انکساری کے طور پر تو اضعا خود ایسا

فرمایا۔ وہابیہ غیر مقلدین کے مفروضہ کا مدلل و متحقق منسل تحقیقی و التزیمی جواب ہم ماہنامہ رضائے مصطفیٰ کو جر انوالہ میں دے چکے ہیں جو علیحدہ پمفلٹ کی صورت میں بھی چھپ چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بارگاہ رسالت سے ابو ہریرہ (بلیوں کے باپ) عطا ہوئی تو کیا وہابی اس کو حقیقت پر محمول کرے گا کیا واقعی حقیقتاً وہ بلیوں کے باپ تھے اور بلیاں ان کی اولاد تھی؟ سیدنا حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے تو کیا واقعی حقیقتاً وہ مٹی کے باپ اور مٹی ان کی اولاد تھی؟ بد بخت و بے بصیرت وہابی رائٹر غور کرے اور جواب دے قرآن عظیم کی سورتوں کے نام سورہ بقرہ گائے کے نام پر اور سورہ نمل چیونٹی کے نام پر سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر سورہ نمل ہاتھی کے نام پر ہے تو کیا بد حواس بے شعور وہابی قلم کار یہاں بھی یہی کہے گا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی سورتوں کے نام جانوروں کے نام پر رکھ کر قرآن عظیم کی توہین اور بے ادبی کر دی؟ کاش کہ وہابی قلم کار سیدنا اعلیٰ حضرت کے خلاف دریدہ ذہنی کرنے سے پہلے اپنے سردار احمدیٹ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی "سیرت ثنائی" دیکھ لیتا جس میں بار بار صاف لکھا ہے کہ:-

"شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ امرتسری"

☆ اب جواد تم نے اور تمہارے اکابر نے مولوی ثناء اللہ کو شیر پنجاب مان کر اس کو انسانیت کے

دائرہ سے خارج کر دیا یا نہیں؟ اور وہ انسان رہا یا نہیں؟

☆ جب تم نے مولوی ثناء اللہ کو شیر مان لیا دائرہ انسانیت سے نکال باہر کیا تو ہمیں بتایا جائے کیا

ثناء اللہ صاحب کے دم بھی تھی؟

☆ کیا ثناء اللہ صاحب شیر کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر چلتا تھا؟

☆ کیا جنگلی جانوروں کا شکار کر کے بغیر حلال کئے ان کا گوشت کھاتا تھا؟

☆ جانور کپڑے نہیں پہنتے تو کیا مولوی ثناء اللہ صاحب شیر کی طرح تنگ دھڑنگ مادر زاد ننگے

رہتے تھے اور اپنے جلسوں اور مناظروں میں ننگے کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے اور اسی

شان سے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔

☆ شیر کو نکاح مسنونہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو کیا مولوی ثناء اللہ صاحب کی اپنی رفیقہ حیات بھی بغیر نکاح مسنونہ کے ان کے زیر تصرف تھیں؟

☆ اور پھر بتاؤ کہ اس طرح ان کی اولاد حرامی قرار پائے گی یا حلالی اور خود بدولت مولوی ثناء اللہ صاحب شیر پنجاب بغیر نکاح کے مجامعت کے مرتکب ہو کر زانی و بدکار قرار پائیں گے یا نہیں؟

☆ اور پھر یہ بھی بتائیں کہ زانی بدکار شخص کی افتدائے میں نماز کو کسی صحیح حدیث کی رو سے ثابت و جائز ہے؟

بے حیائی اور غلط گفتگو کا بھی جواب

خوب دے سکتے ہیں لیکن باحیا ہیں قادری

اور سنو مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی مولوی ساجد میر کا داد لکھتا ہے کہ:-

ولنعم ما قال العارف الجامی رحمہ اللہ علیہ

تاب وصلت کار پا کاں من ازیشاں میستم

چوں سگانم جائے وہ در سایہ دیوار خویش

ترجمہ: تاب تیرے وصل کی کام پاکون کا ہے میں ان سے نہیں ہوں

مثل کتوں کے ہوں مجھے جگہ دے اپنی دیوار کے سایہ میں

(کتاب سراجا منیر ص ۱۹، ۲۵ مطبوعہ جمعیتہ الہدیٰ سیالکوٹ)

نجدی وہابی قلم کار اب بتائے کہ دماغ سے وہابیت کے گستاخ کیڑے جھڑ گئے یا نہیں؟

اور بطور عجز و انکساری اپنے آپ کو تواضعاً سگ کہنے کا مفہوم سمجھ میں آیا ہے یا نہیں۔

ہماری مذکورہ بالا جامع تحقیق سے رکھوالی کے لئے طلب کئے گئے دواعیٰ نسل کے کتوں

کا مفہوم بھی یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رکھوالی کے لئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے پیر خانہ کی

خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لئے اپنے دونوں صاحبزادگان کرام کو پیش کر دیا۔ ممکن ہے وہابی

صاحب کہیں قرآن مجید سے ثبوت نہیں دیا لیجئے قرآن عظیم میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو ظالمین میں سے کہا قرآن عظیم میں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْهِنُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو کیا وہابی صاحب اور ان کی ساری نفری حضرت یونس علیہ السلام کو (معاذ اللہ) ظالم کہا کرے گی؟ حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بطور عجز و انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظالم کہہ رہے ہیں جب یہاں نہیں تو پھر وہاں سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر بھی دیدہ و دانستہ یا بطور تفحیک و تنقیص وہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا جو کسر نفسی کے طور پر حضور اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے لئے استعمال کریں۔

تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے خود ہی خود کشی کرے گی

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

جیسی کرو و لسی بھروسہ۔

صحفیہ اپنی پہلی کتاب کا دم ٹوٹ جاتا ہے اعصاب جواب دے جاتے ہیں لکھتا ہے کہ:-

"ہماری یہ گزارشات جیسی کرو و لسی بھروسہ کے تحت تھیں"

اب ہم اختصار کے ساتھ تین سگے بھائیوں کے مولف کے اعتراضات کا جائز لیں

۱۔ جوابا گزارش ہے کہ بفضلہ تعالیٰ ہم نے بھی بحوالہ کتب مدلل و متحقق انداز میں وہابی مصنف

کے دجل و فریب کا طلسم پاش پاش کر کے رکھ دیا اور وہ خود بھی جیسی کرو و لسی بھروسہ کا منظر چشم سر کے

ساتھ دیکھ لے۔

نہ تم توہین یوں کرتے نہ ہم تردید یوں کرتے

نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

ضروری وضاحت:-

سب سے پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں کہ ملکہ و کٹوریہ برانڈ الہدیٰ وہابیوں غیر مقلدوں

کا کوئی مستقل مذہب نہیں کوئی مستقل عقیدہ نہیں ہے پہلے یہ انگریزوں کے حامی و ہموا تھے آج کل مخالف ہیں پہلے نظریہ پاکستان کے مخالف اور دشمن تھے آج کل حامی و ہموا ہیں پہلے سعودیوں عزیزوں کے دشمن اور مخالف تھے آج کل ریا لوں کے زیر سایہ حامی و ہموا ہیں پہلے جہاد کشمیر سے ان کو کچھ تعلق نہ تھا آج کل بظاہر جہاد کشمیر کو بزنس بنایا ہوا ہے پاکستان کے غیر مقلدین سعودیوں کا دودھ پی پی کر پل رہے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں امریکہ کی مخالفت کے بغیر چارہ نہیں لہذا یہ امریکہ کے خلاف بیان بازی کا جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن سعودیہ اور سعودی خاندان امریکہ کے رحم و کرم پر ہے امریکہ کا دست نگر و در یوزہ کر رہے ہیں اور امریکی اشارہ کے بغیر پر نہیں مار سکتے پہلے یہ مزاروں خانقاہوں آستانوں پر حاضری دینے کو سعادت اور نعمتیں سمجھتے تھے جیسا کہ مولوی محمد ابراہیم میرسیالکوٹی نے حضرت سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ کے مزار اقدس پر حاضری دی (تاریخ الامجدیٹ ص ۳۸۱)

اور مولوی قاضی سلیمان منصور پوری دہانی نے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی قدس سرہ کے مزار اقدس روضہ مبارکہ پر حاضری دی اور مجدد الف ثانی نے ان کا ہاتھ بکڑ لیا اور بیٹھے رہنے کا قبر کے اندر سے حکم دیا۔ (کرامات الامجدیٹ ص ۲۲)

پہلے کشف و کرامات کو شرک بدعت قرار دیتے تھے اور اب اپنے دہانی مولویوں کے کشف و کرامات بیان کرتے ہیں (کرامات الامجدیٹ ص ۲۳) وغیرہ وغیرہ تمام الامجدیٹ کا عقیدہ:-

اب مصنف نے غیر مقلد و ہابیوں کا تازہ ترین عقیدہ مسلمانان اہلسنت کے دیکھا دیکھی یہ بتایا ہے کہ مزارائی چاہے لاہوری ہو یا قادیانی وہ بالاتفاق کافر ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی ہر لحاظ سے چھوٹا ہے بے دین ہے اور مفتری ہے۔ رسول اکرم ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کذاب و دجال ہے اور اس کذاب کو نبی ولی یا مجدد تسلیم کرنے والا دائرہ اسلام چھوٹے خارج ہے۔ (ص ۱۹)

قارئین یہ دہانی قلم کار نے آج کل کا تازہ ترین عقیدہ وہابیہ بتایا ہے کہ آج کل ہمارا یہ عقیدہ ہے مگر قارئین کرام غور کریں کہ مصنف نے غلام احمد قادیانی مرتد کو محض بے دین مفتری کذاب کہا ہے قطعی اجماعی کافرو مرتد قرار نہیں دیا اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے حالانکہ حضور خاتم النبیین ﷺ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا ایسا قطعی اجماعی کافرو مرتد ہے جس کو مسلمان سمجھنے اور ماننے والا بھی اسی کی طرح قطعاً یقیناً اجماعاً کافرو مرتد ہے۔ قارئین کرام غور فرمائیں:-

یہ زبانی کلامی محض دعوی ہی دعوی ہے اول تو مصنف اس پر اپنے اکابر کی مستند و معتبر کتابوں سے کوئی دلیل و حوالہ نقل کرنا کہ وہابیوں کا یہ فتوی اور یہ عقیدہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے؟ دوم یہ کہ اس فتوی میں خود دجال و کذاب و مفتری غلام احمد قادیانی پر کفر و ارتداد کا فتوی کہاں ہے؟ خود مرزا غلام احمد کو تو محض چھوٹا اور مفتری لکھا ہے جب کہ لاہوری اور قادیانی مرزائیوں کو کافر لکھا ہے اور آخری دو سطروں میں کھلم اچھا میں ہر دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب اور دجال بتایا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق اس عبارت میں کفر و ارتداد کا فتوی نہیں البتہ آخری سطر میں چھوٹا دعوی نبوت کرنے والے کو کذاب لکھ کر یہ کہا ہے اس کذاب کو نبی ولی یا مجدد تسلیم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے (چھوٹا کتابچہ ص ۱۹)

چاہیے تھا غلام احمد قادیانی پر کفر و ارتداد اور دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہونے کا فتوی پہلے دیا جاتا۔

نقلی فاتح قادیان پر عدم اعتماد:-

دہانی قلم کار نے صفحہ ۲۰ پر مولوی ثناء اللہ امرتسری کو بقلم خود فاتح قادیان قرار دے کر خود بھی امرتسری پر عدم اعتماد کا برملا اظہار کیا ہے مولوی ثناء اللہ صاحب کے نام سے لکھا ہے موصوف نے حدیث صلوا خلف کل برو فاجو یعنی ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو سے استدلال کیا ہے ہمارے (یعنی مصنف غلیظ کتابچہ) کے نزدیک ان (مولوی ثناء اللہ امرتسری) کا

یہ استدلال درست نہیں لیکن پھر بھی اجر سے خالی نہیں کیوں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرنے والا نہایت اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے اگر اس کا اجتہاد مبنی پر صواب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوا جز دیتا ہے اور اگر اس کا اجتہاد مبنی پر خطا ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دیتا ہے۔" (غلیظ کتابچہ ص ۲۰)

قارئین کرام غور فرمادیں اور بار بار پڑھیں:-

مصنف کا یہ تانا بانا بکثرت جلسازیوں اور الجھنوں کا مجموعہ ہے اول تو بے چارے ثناء اللہ امرتسری کو فاتح قادیاں قرار دیا خدا جانے ثناء اللہ صاحب نے کون سے توپ خانہ اور ہوائی بیڑے کے ساتھ قادیاں کو فتح کیا تھا کیا قادیاں پر دہائیوں کا غلبہ اور قبضہ ہو گیا تھا اور مرزائیوں کو نکال باہر کیا تھا؟ اگر نہیں تو فاتح قادیاں کیسے ہوئے تعجب ہے قادیانیوں پر صریحاً کفر و ارتداد کا فتویٰ بھی نہ دینا ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنا اور جائز قرار دینا اور ایسے ثناء اللہ کو ایک ہی سانس میں فاتح قادیاں بھی ثابت کرنا مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے یہ نور کشتی تھی اور پھر صلوا خلف کل برو ولاحر سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ ہر بے ادب گستاخ کافر و مرتد مکر ختم نبوت کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو اور پھر کمال پر کمال اور طرفہ تماشہ یہ ہے وہابی مصنف کے نزدیک مولوی ثناء اللہ کا یہ استدلال درست بھی نہیں مگر پھر بھی مولوی ثناء اللہ کی وکالت اور دلالی کر رہا ہے اور پھر تعجب یہ کہ مصنف خود تسلیم کرتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کا استدلال حدیث سے ہے مگر مصنف الحمدیث کہلا کر مولوی ثناء اللہ صاحب کے حدیث سے کئے گئے استدلال کو درست بھی تسلیم نہیں کرتا وہابی رائٹر کی ہر بات میں انوکھی ادا اور نرالی شان ہے اب تک وہابی فقہ و اجتہاد اور قیاس کو زہر قاتل سمجھتے تھے مگر مصنف اپنی اس تحریر میں اجتہاد کرنے پر دو اور ایک ثواب کی بشارت دے رہا ہے اور بدھومیاں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آج کے دور میں کون مجتہد ہو سکتا ہے اور کون منصب اجتہاد پر فائز ہے؟ ایک غلطی یہ کہ مرتد و کافر کو فاسق و فاجر سمجھا جائے دوسری غلطی یہ کہ فاسق و فاجر کی اقتداء میں جواز نماز کا قول کیا جائے اور پھر حدیث سے اپنے بقول غلط استدلال کرنے والے

کے خانہ ساز مجتہد کو سر اسر خطا پڑھتے ہوئے اسے ایک اجر و ثواب کی بشارت دیتا ہے مصنف کی اس ساری جدوجہد کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہوا کہ قادیانی کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجتہاد کرنے پر مولوی ثناء اللہ امرتسری کو ایک ثواب ملا کیوں کہ اس کا اجتہاد خطا پر مبنی تھا اور یہ مصنف کے نزدیک درست نہ تھا اور خود بدولت مولوی ثناء اللہ صاحب اور اس کے ہم فکر لوگوں کے نزدیک قادیانی کی اقتداء میں جواز نماز کا اجتہاد کرنے پر مولوی ثناء اللہ صاحب کو دو اجر و ثواب ملے اور اس کے باوجود مولوی ثناء اللہ صاحب فاتح قادیاں بھی ہیں یہ ہے اجتماع ضدین۔

تیرے قول فعل میں ہے فرق بعد المشرقین
گو زبان و قلب میں کچھ فاصلہ اتنا نہیں

وہابی قلم کار نے اپنے غلط استدلال کرنے والے مولوی ثناء اللہ کو مجتہد بھی مانا ہے اور ان کو منصب اجتہاد پر بھی فائز کیا ہے اب جاہل مطلق وہابی مصنف کیا جانے کہ مجتہد کون ہوتا اور کون اجتہاد کر سکتا ہے اور اجتہاد کا معنی و مفہوم کیا ہے اور کچھ نہیں کتب لغت میں اجتہاد کا معنی ہی دیکھ لیتے مولوی ثناء اللہ کو منصب اجتہاد پر فائز کر تم نے اپنی اہل حدیثی کا پول کھول دیا سنو اجتہاد کا معنی ہے جدوجہد قرآن و حدیث اور اجماع پر قیاس کر کے شرعی مسائل کے متعلق نئی بات دریافت کرنا۔ (فیروز اللغات ص ۲۲)

وہابی صاحب تمہارا قیاس و اجتہاد اور تقلید و اجماع سے کیا واسطہ قیاس و اجتہاد تو تمہارے واسطے موت ہے یہ زہر کی گولی تم نے کیسے نگل لی؟ یہ ہمارا الزام نہیں تمہارے بڑوں کا شعر بھی ہے

ہوتے ہوئے نبی کی گفتار
مت مان کسی کا قول و کردار

تم نے خود بھی لکھا ہے کہ:-

"اہل حدیث (ملکہ و کنور یہ برائٹ) کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے

منافی کسی کا قول نہ دلیل ہو سکتا ہے نہ حجت اگرچہ وہ قول کتنے ہی بڑے عالم کا ہو "اب بولو مولوی ثناء اللہ کا قیاسی اجتہادی قول تمہیں کس طرح ہضم ہو گیا اور کتاب و سنت کے مقابلہ میں تم نے کس طرح ثناء اللہ کو ایک اجر کا مستحق قرار دے دیا؟"

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب تھا:

صلوا خلف کل ہرو و ہاجو ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ مگر افسوس صد افسوس عیار قلعہ کار نے فقہ اکبر کا صرف نام لکھ کر بات آئی گئی کردی جلد اور صفحہ کیوں نہیں لکھا؟ اور پھر اس کا اطلاق کافر و مرتد مکر ختم نبوت اور مدعی نبوت و جال و کذاب پر کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا سر سے دماغ اور دماغ سے عقل اڑ گئی؟ اور پھر دوہری غلطی یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول سے دلیل پکڑ رہا ہے اور ثبوت دے رہا ہے اور کہتا ہے ہم الحمدیث ہیں کتاب و سنت کے خلاف کسی کا قول نہیں مانتے..... اور یہ قول اور تو الیاں تمہیں مبارک ہمیں کتاب و سنت کافی ہے بتائیے وہابی قلعہ کار کا یہ دو غلہ عمل اور دو غلہ مذہب ہے یا نہیں؟

دوہرا مکان بنایا ہے رہنے کو نجدی نے
آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گیا

"لکھتا ہے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد پہلے ہے اور مولانا امرتسری کا اجتہاد بعد میں ہے" صفحہ ۲۰ حالانکہ بدھو میاں کو معلوم ہونا چاہئے کہ امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مکرین ختم نبوت مرتد قادیانی تھا ہی نہیں نہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے اجتہاد سے کسی مرتد کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیا نہ یہ اجتہادی و قیاسی مسئلہ ہے وہابی مصنف خواخواہ غلط بحث کر رہا ہے اور الٹی گنگا بہا رہا ہے۔

مولوی امرتسری مرزا انیت کے خلاف تلوار بے نیام:-

ہم کہتے ہیں آدمی اپنی زبان و کلام و بیان کے زور سے جس کو جو چاہے بنا دے رائی کا

پہاڑ اور پہاڑ کی رائی بنا دے مرزا انیت قادیانیت کے خلاف ٹین کی تلوار بے نیام نے کیا جوہر دکھائے یہ سب ٹورا کشتی تھی۔ مرزا انیت یا سنیہ حلیہ کے خلاف بولنا بڑکیں مارنا، کوہے مٹکا مٹکا کر بھاؤ بتانا یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا بزنس اور کاروبار تھا وہ قادیانی مرتد پر کفر و ارتداد کا واضح غیر مبہم فتویٰ نہ دے سکا احناف اہلسنت و جماعت بریلوی مکتب فکر سواد اعظم کے خلاف بولنا لکھنا بھی اس کی معاشی و اقتصادی پسماندگی تھی گویا کہ اس کا ذریعہ معاش تھا مگر وہابیوں کی اس ٹین کی تلوار بے نیام نے بھی الحمد للہ ثم الحمد للہ ہم اہلسنت احناف بریلویوں کو مسلمان مانا ہے اور صاف صاف اقرار کیا ہے۔

ثناء اللہ امرتسری کا اقرار و اعتراف:-
لکھتا ہے:-

"اسی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے۔" یہ بیان آج سے ۵۳ سال پہلے کا ہے گویا ۱۳۲ سال پہلے۔ (حنفی توحید مطبوعہ سرگودھا ص ۴۰)

انوکھی دلیل:-

"تین خونی رشتوں" کے رائٹر وہابی مصنف، مولوی ثناء اللہ امرتسری وہابی کو قادیانی مرزا کا مخالف ثابت کرنے کے لئے ایک عجیب و غریب انوکھی دلیل میدان کارزار میں لایا ہے لکھتا ہے مولانا امرتسری مرزا غلام احمد قادیانی کے کس قدر خلاف تھے نیز انھوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اسے کس قدر ستایا اس کا اندازہ مرزا قادیانی کے اپنے بیان سے کیجئے مرزا غلام احمد قادیانی، مولانا امرتسری کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ:-

"مدت سے آپ کے پرچہ الحمدیث میں میری تکذیب اور تقسیق کا سلسلہ جاری ہے ہمیشہ آپ مجھے اپنے ہر ایک پرچہ میں مردود و کذاب و جال اور مفسد کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے

ہیں یہ شخص مفتری اور کذاب ہے اور اس کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر اختراء ہے..... اب لمبی قیل و قال سے کیا حاصل فیصلہ کی آسان صورت یہ ہے کہ..... میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں میں جو فریق جھوٹا ہے خدا سے سچے کی زندگی میں ہلاک کرے۔" (غلیظ وہابی کتابچہ ص ۲۱)

یہ کیا دلیل ہے.....؟ :-

وہابی قلم کار اپنے زعم جہالت میں مرزا قادیانی کے ان چند بے ربط جملوں کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے حالانکہ اس دلیل میں کچھ وزن نہیں کیوں کہ ان جملوں میں مرزا قادیانی نے یہ نہیں لکھا کہ ثناء اللہ امرتسری نے مجھے کافر و مرتد دائرہ ایمان و اسلام سے باہر قرار دیا نہیں صرف یہ کہہ رہا ہے میری تکذیب و تقسین کی مجھے مفسد کہا مفتری کیا وغیرہ تو ان چند جملوں سے تو یہ ثابت ہوا کہ وہابی مناظر مولوی ثناء اللہ امرتسری مرزا غلام قادیانی کو مسلمان سمجھتا تھا تکذیب و تقسین کرنے کے معنی ہیں جھٹلانا اور فاسق قرار دینا مفتری کے معنی ہیں افتراء کرنے والا مفسد کے معنی ہیں، فساد کرنے والا۔ بتایا جائے یہ کیا دلیل ہے یہ کیا ثبوت ہے حالانکہ مرزا قادیانی کی اس تحریر میں مرزا کے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی مذکور ہے اور مرزا کی یہ تحریر سلسلہ احمدیہ ص ۱۳۵ مطبوعہ قادیان سن ۱۹۳۹ء سے منقول ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کی تحریر کی طرح سن ۱۸۸۰ء کی نہیں ہے جب بقول وہابی رائٹر مرزا قادیانی نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور مسیح موعود و مہدی ہونے کا مرزا قادیانی کا دعویٰ وہابی رائٹر کے مطابق سن ۱۸۹۱ء کا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کے مسیح موعود اور مہدی ہونے کے دعویٰ کے ۲۸ سال بعد تک مولوی ثناء اللہ امرتسری نے مرزا قادیانی کو کافر و مرتد اور دائرہ ایمان و اسلام سے خارج نہیں مانا صرف فاسق و فاجر مفتری و مفسد جانا یہی وجہ ہے کہ ثناء اللہ وہابی صاحب امرتسری قادیانی مرزا کے سن ۱۸۹۱ء کے دعویٰ مسیح موعود اور مہدی علم و یقین میں ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کو سن ۱۹۰۸ء تک مسلمان جان کر قادیانی کے پیچھے نمازیں جائز قرار دیتے رہے اور صاف لکھا ہے کہ۔

"مرزائی کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی حدیث میں ہے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو یعنی اگر وہ (قادیانی) جماعت کر رہا ہو تو مل جاؤ" "وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (رسالہ احمدیہ امرتسری ۳۱ مئی سن ۱۹۱۲ء زیر ادارت مولوی ثناء اللہ امرتسری وہابی)

ان نقد بہ نقد زنائے دار حوالوں سے کیا ثابت ہوا کہ مرزائیوں قادیانیوں اور غیر مقلد وہابیوں کے اعتقادی رشتے بہت مضبوط و غیر متزلزل ہیں۔ اور قادیانی کی اقتداء میں امرتسری کے جواز نماز کے فتویٰ کا اعتراف خود وہابی قلم کار نے بھی لیا ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ حالانکہ ختم نبوت پر ایمان لانا قطعی ایمانی ہے اور ضروریات دین سے ہے اور یہ مسئلہ اجماعیات عظمیٰ میں سے ہے جس کا منکر قطعاً یقیناً کافر و مرتد ہے دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہے اور ایسے منکر ختم نبوت کو کافر و مرتد نہ ماننے والا بھی کافر و مرتد ہے۔

مرزا قادیانی احمدیہ تھا یا حنفی :-

مفت محمد امجد علی شاہ صاحب فرم فرمائی ہیں کہ مرزا قادیانی سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی حنفی تھا والہ یہ ہے، قرآن و انصاف پسند قارئین خود کر سکتے ہیں لکھا ہے کہ:-
"احمدیت (مردانیت) کا یہ حاکم مادہ عقیدہ اس بارہ میں وہی ہے جو حضرت امام ابوحنیفہ کا تھا کہ قرآن کریم سب سے مقدم ہے اس سے اتر کر احادیث صحیحہ ہیں اور اس سے اتر کر ماہرین فن کا استدلال اور اجتہاد اسی عقیدہ کے مطابق احمدی (قادیانی) بعض دفعہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں"
(نوالہ پیام احمدیت صفحہ ۱۱۴ از مرزا محمود احمد ۱۲ اکتوبر سن ۱۹۴۸ء)

جواباً گزارش ہے :-

ہمیں وہابی رائٹر سے تو خواب و خیال میں بھی صحیح سمجھنے اور حق قبول کرنے کی امید نہیں ہے البتہ انصاف پسند قارئین کرام سیدھی سادی بات یہ ہے کہ:-

جو شخص مسلمان ہی نہ ہو وہ خفی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شخص وہابی رائٹر مرزا نیوں قادیانیوں کو خفی ثابت کر کے مسلمانوں میں داخل کر رہا ہے حالانکہ وہ مردود ختم نبوت کے اجماعی عقیدہ کی تکذیب کر کے مسلمان ہی نہ رہے تو خفی کیسے رہ گئے؟ اور پھر مرزا محمود قادیانی مردود نے اپنے احمدی قادیانی فرقہ کو مکمل اور دائمی طور پر مستقل خفی کب کہا ہے بلکہ اس نے تو بہت دبی زبان اور ہلکے انداز میں صرف اتنا کہا ہے "احمدی (قادیانی) بعض دفعہ اپنے آپ کو خفی بھی کہتے ہیں۔" مگر وہابی قلم کار نے کمال خیانت سے بعض دفعہ کو کلی طور پر خفی بنا دیا تاکہ خفیوں بریلویوں اور قادیانیوں کا خونی رشتہ ثابت کیا جاسکے اور یہ نہ دیکھا کہ زور ازوری خفی قرار دیا تو مرتد قادیانیوں کو مسلمان بھی ماننا پڑے گا کیوں کہ جو مسلمان نہ ہو وہ خفی ہو ہی نہیں سکتا۔ بتاؤ مرزا محمود کی ایک ناپاک تحریر سے اعلیٰ حضرت کا خونی رشتہ کس طرح ثابت ہوا؟

شرم تم کو مگر نہیں آتی

وہابی کا بوگس انداز فکر، مرزا قادیانی نے امام احمد رضا کو چیلنج نہیں کیا:-

صفحہ ۲۳ پر لمحہ فکریہ کے تحت لکھتا ہے کہ:-

مرزا قادیانی نے اپنے تمام مخالفین کو چیلنج کیا اور مباہلوں کی دعوت دی جن میں دیوبند کے اکابرین اور اہلحدیث علماء سرفہرست تھے کہا اس نے کسی احمد رضا کو بھی چیلنج کیا کبھی نہیں..... چیلنج ہمیشہ مخالفوں کو کیا جاتا ہے.....

و غیر ذالک من الخرافات ص ۲۳

جواباً گزارش ہے:-

یہ کہاں کا اصول اور کونسا قاعدہ کلیہ ہے کہ چیلنج بہر صورت مخالفوں کو ہی کیا جاتا ہو نورا کشتی بھی تو ہوتی ہے اور پھر گیدڑ یا لومڑی شیر کو کیسے چیلنج دے سکتے ہیں، ہر کوئی نرم شکار دیکھتا ہے بس دو لفظوں میں سمجھ جاؤ کہ بے چارہ جہل وارتد ادکار غلام قادیانی علوم و معارف کے سمندر اور تحقیقات کے بادشاہ سیدنا الامام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کرنے کی کس طرح

جرات و حماقت کر سکتا تھا جس نے برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی چار پانچ مستقل تصانیف اور سیکڑوں فتاویٰ میں مرزا قادیانی کی جعلی نبوت اور مہدیت کے دعوؤں کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا اور ناقابل تردید دلائل سے مرزا قادیانی کے افکار باطلہ کا ناقابل تردید رد و ابطال کر دیا تھا۔

رضا کے سامنے کی تاب کس میں

فلک وار اس پہ تراخل ہے یا غوث

(رضی اللہ عنہ)

چیلنج تو اپنے سے کمزور و ناتواں لوگوں کو دیا جاتا ہے جہاں امید ہو کہ پہلی ہی پکڑ میں پھیل دوں گا۔ امام اہلسنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی جلالت علمی کی مرزا مردود کہاں تاب لا سکتا تھا اور کس طرح چیلنج کی جرات و حماقت کر سکتا تھا۔

روانا محمد حسین بٹالوی کا:

دینا جانتی ہے کہ اہل مولوی محمد حسین بٹالوی اور مرزا غلام قادیانی کی گاڑھی چھنتی تھی وہ آپس میں باہم شیر و شکر کرتے تھے ای محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کی قصیدہ خوانی میں زمین و آسمان کے قابو ملائے مگر اس کی تردید کرنے اور مولوی محمد حسین بٹالوی سے یہ الزام اٹھانے کے لئے آج سن ۱۴۲۱ھ بمطابق سن ۲۰۰۰ء میں بے خبر و لاعلم بے چارہ یہ وہابی مبلغ علم کا حامل رائٹر پیدا ہوا ہے چلو ہم اس کے جوڑ توڑ کو تسلیم کر لیں گے وہ یہ ثابت کر دے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے مرزا کے دعویٰ کج موعود اور دعویٰ مہدیت معلوم ہونے کے بعد سن ۱۸۹۱ء میں مرزا غلام قادیانی پر کفر و ارتداد کا فتویٰ دے کر اس کو دائرہ ایمان و اسلام سے خارج قرار دیا ہو؟ ہم پوچھتے ہیں کیا رسالہ موج کوثر سن ۱۸۹۱ء کا چھپا ہوا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ محض کتابچہ یا کتابچی موج کوثر کے نام سے دھونس جمانے سے بہتر یہ نہ تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے اصل فتویٰ کفر کے بعینہ الفاظ نقل کئے جاتے اور فتویٰ کفر کی فوٹو کاپی چھاپ دی جاتی یہ نام نہاد فتویٰ کفر سن ۱۸۹۱ء سے آج تک ایک سو آٹھ سال کہاں گوشہ گمنامی میں دبا رہا؟

مری ہوئی دلیلیں بے جان سہارے:-

وہابی قلمکار کی حالت یہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے آریہ سماج اور عیسائی اور دیگر اسلام دشمن فرقوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا تھا ویسے بھی کسی جھوٹے کی صحیح بات کی تعریف کرنے میں اخلاقاً یا شرعاً کیا قباحت ہے خود رسول اکرم ﷺ سے جب حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کی وہ بات بیان کی جو آیت الکرسی کی فضیلت کے ضمن میں تھی تو آپ ﷺ نے سنتے ہی فرمایا وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا اسی طرح اگر مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی اسلام کے حق میں کوئی بات نکل جاتی ہے تو قطعاً باعث تعجب نہیں۔ (غلیظ کتابچہ ص ۲۴)

جواباً گزارش ہے:-

قارئین کرام، وہابی قلمکار کی آخری سطر کے آخری الفاظ "قطعاً باعث تعجب نہیں" ملاحظہ کریں! کیا بے ربط بے جوڑ فقرہ ہے مصنف بننے کا جنون ہے مگر استعداد نہیں بہر حال ہم مصنف سے دریافت کریں گے کہ ایک من دودھ میں دو درجن نورس یا شربت روح افزا کی بوتلیں ڈال دیں، کیوڑہ بادام پستہ ڈال دیں، عرق گلاب ڈال دیں، چینی شکر ڈال دیں اور صرف دو قطرے پیشاب کے ڈال دیں تو کیا آپ ان دو قطروں کو نظر انداز کر کے ایک من دودھ اور دو درجن شربت کی بوتلوں اور کیوڑہ بادام پستہ والے دودھ شربت کی تعریف و توصیف کریں گے؟ باقی رہی آپ کی آیت الکرسی والی مثال تو حضور اقدس سید عالم ﷺ نے اس کی بات کو صحیح کہا شیطان کی تعریف و توصیف نہ کی۔ کیا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی صرف مرزا قادیانی کی کتاب، براہین احمدیہ کے ان مندرجات کی ہی تعریف کی تھی جو آریہ سماج اور عیسائیوں کے رد میں تھے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا مولوی محمد حسین بٹالوی اور دوسرے وہابی مولوی خود آریہ سماج اور عیسائیوں کا رد و ابطال، مرزا قادیانی جیسا نہیں لکھ سکتے تھے۔ جو مرزا غلام قادیانی کی تعریف و توصیف کرنے کی ضرورت پڑی اور مسلمانوں کے دلوں میں اس مردود کی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کی گئی؟ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ اور پھر بقول تمہارے مرزا مردود خفی تھا اور تم

تقلید ائمہ کو شرک سمجھتے ہو تو تم نے اپنے خیال خام کے مطابق مشرک مقلد کی تعریف و توصیف کیوں کی اس میں کیا راز تھا؟

کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

بے ڈھب بے وقوفی:-

پرلے درجہ کا احمق اور بے وقوف خود ہے اور دوسروں کے لئے کہتا ہے عجب بے وقوفی خیر اس عنوان کے تحت اس اپنی بد باطنی کا مظاہرہ کرتا ہے "ایک طرف تو ہمیں غیر مقلد ہونے کا معنی دیا جاتا ہے اور دوسری طرف علماء کے اقوال ہمارے خلاف بطور دلیل پیش کئے جاتے ہیں جب کہ (ملکہ برطانیہ برائڈ) احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ:-

کتاب وسنت کے منافی کسی کا قول نہ دلیل ہو سکتا ہے اور نہ حجت اگرچہ وہ

قول کہتے ہی بڑے عالم کا ہو۔" (غلیظ کتابچہ ص ۲۴)

جواباً گزارش ہے:-

اسلم سے کہہ لیں کہ وہابی رائٹر اپنی طرح ساری دنیا کو بے وقوف سمجھتا ہوا جو دل میں آتا ہے الناسیدھا متضاد لکھتا جاتا ہے اور اپنے زعم جہالت میں سمجھتا ہے کہ اس کا قول حرف آخر ہے اب اس کی بے علم تضاد بیانیوں کا جواب ملاحظہ ہو۔

(۱) ہم نہیں غیر مقلد کہتے ہیں تو کیا جھوٹ کہتے ہیں؟ اگر غیر مقلد نہیں ہو تو بتاؤ کس امام کے مقلد ہو اور اگر ہمارا جہمیں غیر مقلد کہنا طعنہ ہے تو اپنا مقلد ہونا ثابت کرو۔

(۲) لکھتا ہے دوسری طرف ہمارے خلاف علماء کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں..... وغیرہ

جواباً گزارش ہے کہ آپ اپنے علماء کے اقوال و حوالہ جات سے کیوں الرجک ہیں اگر وہ اقوال و حوالہ جات کتاب وسنت کے منافی ہیں تو جس طرح ہمارا رد کر رہے ہو ہمیں جواب دے رہے ہو اپنے علماء کو بھی جواب دو اور ان کی غلط، خلاف کتاب وسنت باتوں کا رد کرو یہاں یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ خلاف کتاب وسنت کسی کا قول نہ حجت ہے نہ معتبر ہے نہ قابل قبول ہے یہ تو بھاگنے

والی بات ہے اگر تمہارے بڑوں کے اقوال وحوالہ جات خلاف کتاب و سنت ہیں تو ان پر فتویٰ لگاؤ ایسے ملاؤں کا حکم شرعی بیان کرو کہ یہ لوگ جہنم کے کونسے درجہ میں داخل ہوں گے؟ زبانی کلامی نال منول سے کام نہ لو اور اپنے مولویوں کو کتابیں لکھنے تقریریں کرنے سے بھی منع کر دو کیوں کہ وہ جو کچھ لکھیں یا جو کچھ بولیں گے وہ تمہارے لئے نہ تو حجت ہے نہ معتبر ہے نہ قابل قبول ہے لہذا اپنے مولویوں کی زبان بندی اور قلم بندی کر دو مگر ہمیں افسوس ہے کہ یہ وہابی رائٹر ایک طرف تو اپنے مسلمہ اکابر علماء کے اقوال سے انحراف کرتا ہے اپنے مطلب و موقف کے خلاف سمجھتے ہوئے کتاب و سنت کے منافی قرار دیتا ہے اور دوسری طرف خود بھی صفحہ ۲۰، ۲۱ پر سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہما بلکہ مرزا غلام قادیانی اور مرزا محمود قادیانی کے اقوال وحوالہ جات فقہ اکبر ص ۲۴ پر غنیۃ الطالبین، سلسلہ احمدیہ و پیغام احمدیت وغیرہ کتابوں سے بطور دلیل پیش کرتا ہے اور کتاب و سنت کو بھول جاتا اور ان کتابوں کے حوالوں سے اپنا الوسیدھا کرنا چاہتا ہے حالانکہ مرزا غلام قادیانی اور خلیفہ محمود مردود مرتد ہیں دائرۃ ایمان و اسلام سے خارج ہیں کتاب و سنت میں تو فاسق و فاجر کی گواہی اور شہادت معتبر و حجت نہیں تو کافر و مرتد کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ وہابی قلمکار اپنی ہر بات، ہر دلیل میں بڑی طرح پھنس اور الجھ جاتا ہے اور بڑی طرح ٹھوکریں کھاتا ہے۔

اہل بدعت کی پہچان اور وہابی کا ہندیان :-

مصنف کی اندھی بھینس بڑو میں چڑ رہی ہے یہ اندھا دھند جودل میں آتا ہے لکھ رہا ہے اس کا انجام نہیں سوچتا کہ میری اس دلیل کا کیا حشر ہوگا اور مجھے کن عداوتوں سے گزرنا ہوگا بہر حال مصنف "عقل کل" بن کر صفحہ ۲۴ پر اہل بدعت کی پہچان کے عنوان سے حضور سیدنا غوث اعظم قطب عالم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ غنیۃ الطالبین ص ۱۷۰ سے بطور دلیل و حجت نقل کرتا ہے۔

جواباً گزارش ہے کہ :-

ہمیں بتایا جائے کہ یہ غنیۃ الطالبین کونسا سپارہ ہے اور صحاح ستہ میں سے کونسی حدیث

کی کتاب ہے؟ ابھی دوسرے پہلے اسی صفحہ پر خود لکھ چکا ہے کہ "کتاب و سنت کے منافی کسی کا قول نہ دلیل ہو سکتا ہے اور نہ حجت اگرچہ وہ قول کتنے ہی بڑے عالم کا ہو" مگر اس کے برعکس وہابی قلمکار اپنے منہ پر تھوکتے ہوئے خود اپنی تکذیب و تردید کر رہا ہے اور غنیۃ الطالبین کا حوالہ دے رہا ہے اور حوالہ بھی ایسا قطعی طور پر بے محل و بے ربط ہے کہ مصنف کی عقل و دیانت علم و فہم و فراست کا ماتم کرنا پڑتا ہے کہ وہابی جہالت کے کتنے گہرے سمندر میں غرق ہیں۔ لکھتا ہے "سید عبدالقادر جیلانی (المعروف گیارہویں والے پیر) اہل بدعت کی چند نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اہل بدعت کی بکثرت نشانیاں ہیں جن سے پہچانے جاتے ہیں ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ محدثین کو برا کہتے ہیں اور ان کو حشو یہ جماعت کا نام دیتے ہیں اور اہلحدیث کو فرقہ حشو یہ قرار دیتا زندیق کی علامت ہے..... اہل الاثار (اہل حدیث) کو تاحسی کہنا رافضی کی علامت ہے..... (ملخصاً غنیۃ الطالبین ص ۱۷۰)

جواباً گزارش ہے کہ :-

یہاں بھی وہابی قلمکار نے اپنی بے بصیرتی شقاوت قلبی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور غنیۃ الطالبین کا حوالہ قطعاً بے موقع بے محل نقل کر دیا اس کو تو الفاظ و عبارت سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں کہ کوئی بات میرے دعویٰ کی دلیل بن سکتی ہے یا نہیں اب اگر مصنف ہمارے سامنے ہوتا تو اس کا کان پکڑ کر پوچھتے کہ تم نے جو اہل بدعت کی نشانیاں بتائی ہیں ان کا اطلاق اہلسنت بریلوی مکتب فکر پر کس طرح ہوتا ہے۔ ہم سنی بریلوی محدثین کرام جامعین و مرتبین احادیث کو کب برا کہتے ہیں اور کہاں لکھا ہے اس نشانی سے تو خود غیر مقلد وہابی بدعتی و اہل بدعت قرار پاتے ہیں کیوں کہ ہم تو حضرات محدثین کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہرگز ہرگز برا نہیں کہتے منہ ایسی بات ہماری کتابوں میں مرقوم و موجود ہے بلکہ خود غیر مقلدین تمام محدثین کے بالواسطہ اور بلا واسطہ استاذ الاساتذہ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو برا کہتے ہیں ان کی فقہان کے اجتہاد و قیاس پر اعتراض بکتے ہیں۔ الحمد للہ سارے محدثین جامعین احادیث و مرتبین احادیث

ہمارے ہیں، سب اہلسنت ہیں سب مقلد ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام احمد ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام بیہقی، امام ابوداؤد، امام سیوطی، امام قسطلانی، علامہ امام بدر الدین عینی، علامہ علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ سب اہلسنت تھے، سب مقلد تھے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، الغرض غیر مقلد کوئی بھی نہیں اگر اس کی زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو انجمن انوار القادر یہ حیدر آباد کالونی جمشید روڈ نمبر ۳ کراچی سے ہماری کتاب "اہلسنت کی یلغار بجواب اہلحدیث کی پکار" لے کر ملاحظہ کریں۔ تو ہم اپنے اہلسنت مقلد بزرگوں کو کیوں برا کہیں گے؟

نمبر ۲:- یہ کہ ہماری اور ہمارے اکابر کی کسی کتاب سے یہ بھی ثابت نہیں کہ ہم حضرات محدثین کرام کو حشو یہ جماعت کا نام دیتے ہیں چلو اسی بات اور اسی نشانی پر فیصلہ ہو گیا ہم اور ہمارے اکابر نے کہاں کس کتاب میں محدثین کرام کو حشو یہ فرقہ لکھا ہے؟

نمبر ۳:- یہ کہ اہل الاثر کے درمیان میں وہابی قہکار نے بریکٹ میں (اہل حدیث) کو قید بند کر کے اپنے اوپر اہلحدیث کا اطلاق کرنا چاہا ہے حالانکہ اہل الاثر موجود دور کے ملکہ و کنویر برطانیہ برائڈ غیر مقلد نام نہاد اہلحدیثوں کو نہیں کہا جاتا یہ اہل الاثر کس طرح ہو سکتے ہیں اہل الاثر سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنے والے مرتبین احادیث محدثین کرام کو کہتے ہیں وہابی غیر مقلد خواخواہ زور و زوری درمیان میں گھس کر اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور دوسروں (اکابر محدثین) کو نامی کہنا رافضی کی علامت ہے۔ "بس فیصلہ ہو گیا کہ غنیہ کی یہ عبارت رافضیوں (آج کل کے خود ساختہ شیعوں) کے متعلق ہے سینوں بریلویوں کے متعلق نہیں۔ ورنہ ثابت کریں ہم اور ہمارے اکابر علماء نے اہل الاثر محدثین کہا کو کب اور کہاں نا صبی کہا یا لکھا ہے۔

••• بد بختو.....! کذابو.....! کوئی تو ثبوت لاؤ.....! کوئی تو دلیل پیش کرو.....! جہاں تک ہم اہلسنت کا تعلق ہے تو امام اہلسنت نے شیعوں رافضیوں کے رد میں ایک مفصل کتاب "رد الرفضہ" تحریر فرمائی ہے جس میں روافض کو مرتد قرار دیا اور روافض کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار بتایا تو

اندھ راثر بتائے۔ فتنہ سیسے ہوئے اور غنیہ الطالین کی اس پیش کردہ عبارت کا اطلاق ہم پر کیسے ہوا۔ لہذا غنیہ الطالین کی عبارت کی غلط تشریح کرنے پر اور اس عبارت کو ہم پر چسپاں کرنے کے جرم سے توبہ کرتے ہوئے گیارہویں شریف کو شرک و بدعت قرار دینے کے ظالمانہ و جاہلانہ و معاندانہ فتویٰ سے بھی توبہ کریں ورنہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ صریح جھوٹ لگانے پر کہ سیدنا غوث اعظم قدس سرہ نے ہم اہلسنت کو بدعتی اور رافضی کہا ہے غوث اعظم قطب عالم گیارہویں شریف ۱۰ لے بڑے پیر و سنگیر کی طرف سے لُغْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْکَافِرِیْنَ کا سہرا اپنے سر باندھ لیں۔ کیوں کہ وہابی نے اپنے زعم جہالت میں ہمیں کہا اور لکھا ہے یا پھر اہلحدیث (غیر مقلد ہابیوں) کو برا کہنے سے توبہ کریں ورنہ سید عبدالقادر جیلانی کے دست مبارک سے بدعت کا سہرا گلے میں ڈال کر اپنی موت مر جائیں۔ حالانکہ وہابی مجہول کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ سہرا سر پر باندھا جاتا ہے سہرا گلے میں نہیں ڈالا جاتا یہ وہابی کی بدحواسی و جہالت صریح ہے کہ ہر بات الٹی کرتا ہے اور پھر سیدنا غوث اعظم قدس سرہ نے ہمیں بدعتی اور رافضی کہا ہی نہیں اور نہ آج کل کے برطانیہ برائڈ غیر مقلدوں کو اہلحدیث اور اہل الاثر کہا یہ سب جھوٹ کذب و افتراء و جعل سازی کا ملغوبہ ہے جو وہابیوں کی روح کی تہہ ہے۔

جھوٹے اور کذاب دنیا میں دیکھے ہیں بہت
سب نے بازی لے گئی ہے بے حیائی آپ کی

بریلوی مذہب بریلوی عالم کی نظر میں:-

اپنے غلیظ و خبیث کتابچہ کے صفحہ ۲۵، ۲۶ پر بھی حضرت علامہ الحاج مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے مفہوم سے بھی کھینچا تانی کر کے غلط مفہوم اخذ کیا ہے کہ:-

مفتی احمد یار خاں صاحب نے جاء الحق میں طریقت کے سارے مشاغل
تصوف کے سارے مسائل کو بدعت لکھا ہے مراقبہ، چلے، انفاس، تصور شیخ

کاقرون علامہ میں کہیں پتہ نہیں ملتا چار سلسلے شریعت و طریقت دونوں کے
چار چار سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی،
سہروردی یہ سب سلسلے بدعت ہیں..... وغیرہ (ملخصاً جا، الحق ص ۲۲۲)

جواباً گزارش ہے:-

مصنف نے بڑے فاتحانہ انداز میں یہ حوالہ تو بڑی جلدی نقل کر دیا مگر یہ حوالہ وہابی
قلہ کار کو اس وقت مفید ہوتا جب مفتی صاحب علیہ الرحمہ بدعت کو سید مذمومہ کفر و شرک و حرام قرار
دیتے جس طرح تم لوگ ہلا دلیل و ثبوت جھک بک مارتے اور فتویٰ بازی کرتے ہو۔ کیوں کہ
بدعت محض کہنا شرک و حرام ہونے کی دلیل نہیں یہاں بدعت سے محض بدعت حسنہ مراد ہے بدعت
سیرہ نہیں اور اس میں کچھ خرابی نہیں دیکھو قرآن مجید کے اردو فارسی انگریزی ہندی وغیرہ زبانوں
میں ترجمے قرآن مجید کی عربی، فارسی، اردو وغیرہ زبانوں میں تفسیریں بدعت ہیں یا نہیں اگر سنت
ہیں تو احادیث سے ثابت کرو اور اسی طرح کتب احادیث کے جملہ مجموعے بخاری، مسلم، ترمذی،
نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، مشکوٰۃ وغیرہ سب بدعت ہیں اور پھر ان کتب احادیث کے ترجمے
مختلف زبانوں میں شروحات و حواشی و تعلیقات بتاؤ سنت ہیں یا بدعت ہیں؟ اور اگر سنت ہیں تو
احادیث صحیحہ سے ثابت کرو اور اگر بدعت و ضلالت ہیں تو سب سے دستبردار ہو جاؤ آخر کچھ تو بولو۔
ارے وہابی صاحبو!:-

اب یا تو ان تمام زبانوں کے ترجموں تفسیروں اور احادیث کے تراجم و شروحات و
تعلیقات کو احادیث کے مستند حوالوں سے سنت ہونا ثابت کر دو ورنہ غیر مقلدیت و وہابیت کا جنازہ
اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ہندوؤں کے شمشان گنگا گھاٹ یا جمنا گھاٹ لے جا کر نذر آتش کر کے گنگا
میں بہا دو۔ پھر یہ بھی بتاؤ کہ وہابی مفت روزہ، پندرہ روزہ، ماہنامہ رسالے اور وہابی مدر سے سنت
ہیں یا بدعت.....؟

پیر کی چار پائی مرید کی بیوی کا حوالہ:-

دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے ملکہ و کنور یہ برانڈ ابجدیٹ اپنے گمراہ کن کتابچہ کے صفحہ
۲۶ پر لکھتا ہے کہ:-

"اعلیٰ حضرت اپنی اعلیٰ فہم و فراست کے عین مطابق ارشاد فرماتے ہیں۔

سیدی احمد سہلماسی کی دو بیویاں تھیں سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ

رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری

کی، یہ نہیں ہونا چاہئے، عرض کیا، حضور! اس وقت وہ سو رہی تھی۔ فرمایا

سوئی نہ تھی سوتے میں جان ڈال لی تھی، عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا۔

فرمایا! جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا، عرض کی! ہاں ایک پلنگ

خالی تھا۔ فرمایا! اس پر میں تھا کسی وقت بھی شیخ اپنے مرید سے جدا نہیں

ہوتا ہر آن ساتھ ہوتا ہے۔ (ملفوظات اعلیٰ حضرت ص ۱۹۹)

اس عبارت کے ذیل میں بدقماش وہابی قلم کار نے بازاری انداز میں حیا شکن بھنگڑا ڈالا

ہے اور من مانی اتنی سیدی ہائی ہے اور شرمناک غلط تاثر دیا ہے مگر اس بے خیاء مصنف کو یہ معلوم

تھیں کہ یہ واقعہ سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا اپنا من گھڑت خود نوشتہ نہیں ہے امام اہلسنت سیدنا

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ من و عن کتاب مستطاب "الابریز فی مناقب سیدی

عبدالعزیز ص ۲۱" مصنف علامہ احمد ابن مبارک قاسی قدس سرہ سے نقل فرمایا ہے جس کا اصل مقصد

یہ بتانا ہے حنفی شیخ طریقت اپنے مریدین کے احوال سے باخبر ہوتا ہے کتاب الابریز فی مناقب

سیدی عبدالعزیز، غوث زماں سیدی حضرت عبدالعزیز دباغ کے فضائل و مناقب کا مجموعہ ہے اور

نہایت معتبر و مستند کتاب ہے الابریز کو غیر مقلدین کے مدوح دیوبندی حکیم الامت مولوی اشرف

علی تھانوی نے اپنی مشہور کتاب جمال الاولیاء ص ۴۵، ۵۶ پر مستند معتبر مانا ہے اور اس کی نقل کو بھروسہ

کی نقل تسلیم کیا ہے اور مشہور دیوبندی مفتی جمیل احمد تھانوی نے اپنے شعبان سن ۹۵ھ کے ایک

قلمی تحریفتوی میں لکھا ہے

"الجواب یہ (کتاب الابریز) کے مصنف بڑے اذلیائے کرام میں سے ہیں ان کی کتاب (الابریز) معتبر ہے..... مصنف کی جلیل القدر شخصیت سے اس کو صحیح ماننا پڑ رہا ہے۔"

مہر جمیل احمد تھانوی

مفتی جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ لاہور۔

(دستخط) جمیل احمد تھانوی

۷ شعبان سن ۱۳۹۵ھ

لیکن وہابی قلم کار نے اس واقعہ کو غلط رنگ اور باغیانہ انداز میں پیش کیا ہے اور بد معاشی

یہ دکھائی۔

یہ واقعہ لکھنے والے اصل مصنف حضرت علامہ احمد ابن مبارک فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بجائے ناقل اعلیٰ حضرت سیدنا احمد رضا علیہ الرحمہ پر زبان سخن دراز کر کے اپنا نامہ اعمال میاہ سے سیاہ کر کیا یہ کتاب کوئی آج کل کی تصنیف نہیں بلکہ ۱۱۲۹ھ میں لکھا شروع ہوئی تھی اور پھر علامہ احمد ابن مبارک علیہ الرحمہ کا بھی کیا جرم و قصور کہ انہوں نے یہ واقعہ بطور کرامت لکھ دیا جس کا مقصد وحید یہ تھا کہ مرید کوئی ناپسندیدہ فعل نہ کرے اس کا شیخ بطور کرامت، روحانی طور پر اپنے مرید پر نظر رکھتا ہے اگر یہ جرم و قصور ہے تو کیا میاں بیوی کے باہمی ملاپ (مجامعت) کے وقت کراما کاتبین ملائکہ ساتھ نہیں ہوتے؟ کیا اب وہابی مصنف کراما کاتبین ملائکہ اور ان کے مقرر فرمانے والے اللہ تعالیٰ واحد قہار سیوج و قدوس پر بھی اعتراض کرے گا کہ یہ کیسے ملائکہ ہیں میاں بیوی کی مجامعت کے وقت بھی قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مقرر فرما کر معاذ اللہ..... آگے قلم خاموش ہے۔

اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان السبوح کی یہ شان بیان فرمائی ہے۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے

اب وہابی صاحب کا کیا خیال ہے کہ جس وقت میاں بیوی مجامعت ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو کیا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر کیا تم وہی بکواس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بیویوں کی مجامعت کے وقت شہ رگ سے زیادہ قریب..... ایسے اٹنے ذہن سے سوچتا اور ایسے غلیظ انداز میں تمسخر اڑانا صرف وہابیت نجدیت کے پتہ داروں کا ہی خبث باطنی ہو سکتا ہے۔

بے حیا باش ہرچہ خواہی کن

الغرض "نجدی نے جو بھی بات کی بس وہابیت کی"۔

اس سلسلہ میں اگر ہم غیر مقلدوں کی کتاب "کرامات الہمدیث" اور تواریخ عجیبہ، سیرت احمد اور تاریخ نجد و حجاز سے دلائل و حوالہ جات پیش کریں تو خرمن نجدیت وہابیت میں دراڑیں پڑ جائیں گی مگر چونکہ یہ قلم کتاب پہلے ہی بہت طویل ہو گئی ہے اس لیے اختصار مانع ہے۔ آپ ہی اپنی دعاؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی

قصہ مختصر یہ کہ وہابی نجدی بے بصیرت قلم کار اپنے جنوں و خبط میں ہزار بار ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اہلسنت و جماعت، حامیاں مسلک اعلیٰ حضرت کا شیعوں، رافضیوں مرزائیوں کا دیا بیوں سے کوئی جوڑ، کوئی ربط ثابت نہیں کر سکا اور اس غلیظ و خبیث و مردود الزام پر کوئی مستند و معتبر حوالہ نہ لاسکا زبانی کلامی جمع خرچ وہی خیالی جوڑ توڑ سے افتراء پر درازی اور دروغ گوئی کا مظاہرہ کر کے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کا کوند وسیع و کثیر مقدار میں زادا آخرت کے لئے جمع کرتا ہے اور عوام و خواص کا یقیں ہو گیا

جھوٹے اور کذاب تو دنیا میں دیکھے ہیں بہت

سب سے بازی لے گئی ہے بے حیائی آپ کی

اہل علم و اہل انصاف قارئین کرام:-

وہابیوں کی پرفریب، مغالطہ آمیز کتاب "تین خونی رشتے" اور ہمارا یہ مدلل و متحقق علمی تحقیقی تعاقب "تین اعتقادی رشتے" لیکر بیٹھ جائیں دلائل و حوالہ جات کی مطابقت کر کے دلائل نفی و اثبات کا جائزہ لیں آپ کو مولوی ابوالکلام آزاد کے والد محترم کی بات کا یقین آ جائے گا۔

وہابی بے حیا جھوٹے ہیں یارو
تزارت جوتیاں تم ان کے مارو

وہابیوں کے تین خونی رشتوں سے نہ صرف ہمیں بلکہ جملہ انصاف پسند حق کے متلاشی ہر شخص کو یقین ہوگا کہ جھوٹ بولنے افتراء پر دلازی کرنے میں وہابی اپنے بڑے بھائیوں چکڑالیوں مرزائیوں منکرین حدیث پرویزیوں سے بھی بڑھ گئے اور یہ ثابت ہو گیا

منکر احادیث ہوں یا منکر تقلید ہوں
نام ہی فرق ہے تصویر ہے دونوں کی ایک

عربی مقولہ ہے:-

اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت

جب تیری شرم و حیا مر جائے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔

وہابی جھوٹ بولنے حقائق کو مسخ کرنے میں ید طولی رکھتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہ صرف اہلسنت کو رضا خانی و بدعتی کا نام دیکر ازلی و سیاہی کے حق دار بنے ہیں بلکہ اپنے محبوب وہابیت سے بھی انحراف کرتے اور جی چاہتے ہیں پہلے سینہ تان کر فخر یہ طور پر وہابی کہلاتے تھے تحفہ وہابیہ نامی کتابیں لکھتے اور ترجمان وہابیہ نامی رسالے شائع کرتے تھے اب ملکہ وکٹوریہ سے الہدیت نام منظور کروا کر انگریزی دور میں سرکاری کاغذات میں ملکہ وکٹوریہ برائڈ الہدیت لکھوا کر وہابی ہونے کا صاف انکار کرنے لگے ہیں یہ حالت ہے کہ

وہابی سے پوچھو کہ تم ہو وہابی
تو فوراً کہے گا نہیں تو نہیں تو

آخری دھونس:-

مصنف نے اپنے اس جاہلانہ مفتریانہ مضمون کے آخری صفحہ پر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

"اہم گزارش صرف اور صرف دفاع کے طور پر نہایت اختصار کے ساتھ رضا خانی گروہ کے عقائد و کردار کی مختصر جھلک پیش کی گئی ہے اگر آپ اس گروہ کے مکمل عقائد اعمال اور ان کے اصل تاریخ سے بالتفصیل آگاہی کرنا چاہیں تو مفکرانہ احسان الہی ظہیر کی تصنیف البریلویت کا مطالعہ کریں۔"

جی ہاں اتنی بے خبری:-

مولوی ظہیر کی کتاب دل و آخ رکذب و بہتان الزامات و افتراء کا شرمناک مجموعہ تھی وہابیوں نے اس پر تھوڑی سی جھڑپ کا جواب ہم متعدد غوری میزائلوں سے دے چکے ہیں البریلویت کا ایک جواب مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری نے "شیشے کا گھر" اور ایک جواب "اندھیرے سے اجالے" کے نام سے دیا۔ اور ایک مدلل و تحقیقی عربی جواب "من عقائد اہل السنۃ" کے نام سے رضا اکیڈمی ممبئی نے شائع کیا اور ایک جواب البریلویت کے رد و ابطال میں "النجۃ" شائع ہو چکا ہے آئی اس بے خبری و لاعلمی کے قربان آپ بھی عالم خواب و خبط میں ہیں اور برہم جہالت البریلویت کو ناقابل تسخیر سمجھ رہے ہیں حالانکہ اس کی دھجیاں اڑادی گئیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا تھا۔

کلک رضا ہے فخر خونخوار برق بار
اعداء سے کہ دو خیر منائیں نہ شر کریں

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت سے بغض و عناد:-

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت سے بغض و عناد، گستاخ و خائن وہابیوں کو جہنم لے جایگا کیونکہ

اس فرقہ کے اکابر و اصاغر نے جس قدر الزام تراشیاں افتراء پر دازیاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر کیں، کسی فرقہ میں اسکی مثال نہیں ملتی علمی تحقیقی میدان میں اعلیٰ حضرت کے دلائل قاہرہ کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں کوئی غیر مقلد وہابی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے معاصرین اکابر غیر مقلدین نے اعلیٰ حضرت کے سامنے دم مارا ہوا جرأت لب کشائی کی ہو امام اہلسنت کی کتاب کا رتی بھر بھی جواب دیا ہو کبھی مرد میدان بن کر امام اہلسنت سیدنا مجدد اعظم قدس سرہ العزیز سے مناظرہ تو کیا گفتگو کی ہمت و جرأت کی ہو حق یہ ہے

ترے آگے یوں ہیں دبے لپے فصحاء نجد بڑے بڑے
کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں
اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جرم و قصور کیا ہے یہی ناکہ عظمت شان الوہیت عظمت
شان رسالت، عظمت صحابہ و اہلبیت، عظمت شان اولیاء وائمہ کا تحفظ و دفاع فرمایا حق و باطل کے
درمیان امتیاز کا درس دیا۔ مگر افسوس در افسوس۔

منکروں کی ہے ابو جہلی نگاہ
تجھ کو پہچانیں وہ کیا احمد رضا
گردنوں پر دشمنان دین کی
تیرا خنجر چل گیا احمد رضا

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

گستاخان رسول، دشمنان دین، اب تڑپتے پھڑکتے رہیں اعلیٰ حضرت نے محض رضائے الہی اور
عشق مصطفائی کے جذبہ صادقہ سے جو عظیم و جلیل خدمات انجام دیں عالم اسلام نے ان کا صدق
دل مصمم قلب سے اعتراف کیا ہے اور حق یہ ہے

بدعت و باطل کی گردن کاٹ دی
سیف و مسلول خدا دیکھا تجھے

نجدیوں کے حق پر تھا تیر شہاب
قاتل کل اشقیاء دیکھا تجھے

چیلنج پر چیلنج:-

وہابی مصنف نے سو فیصد خالص جھوٹے حوالے دے کر عبارات میں کتر بیونت کر کے
بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے انعام کا چیلنج دیا ہے حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو دو ہزار روپے
انعام ہم کہتے ہیں یہ سعودی گداگر ہمیں کیا دو ہزار انعام دیں گے ہم وہابی قلمکار کو دس
ہزار = 10000 روپے فی حوالہ انعام دیں گے وہ اپنے پیش کردہ حوالوں کو صحیح ثابت کر دیں اور
یہ ثابت کر دے کہ اس نے کانٹ چھانٹ نہیں کی کسی طرح کتر بیونت اور غلط مفہوم کشید کرنے سے
کا نہیں لیا مرد میدان بن کر سامنے آئے تاریخ مقرر کر کے مینار پاکستان لاہور کے زیر سایہ آئے
سامنے بات کر لیں۔ یا پھر ہمیں اپنا نام، پتہ و شناختی کارڈ اور اپنی تحریر بھیج دے ہم بفضلہ تعالیٰ وہابی
قلمکار کے کرکٹنگ آئے سامنے بات کرنے کو تیار ہیں آپ گمنام پمفلٹوں سے ہمیں کیا جواب
دے سکتے ہیں؟

تمہارے چیل کا اظہار ہو گیا سب پر
او جلد جواب کرو تم سے کب جواب بنا

یا رحمن یا رحیم اعوذ بک من القطیعة ما مذل کل جبار عنید اعوذ
بنصرتک من کل معاند و حاسد و مفسد و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولینا
و ملجانا و ماوانا محمد و علی الہ و اصحابہ اجمعین و بارک و سلم

الفقیہ عبدالنبی الولی محمد حسن علی قادری رضوی بریلوی غفرلہ الولی

خادم اہلسنت و خادم مسلک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ

اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے اپنے پیر کو اپنے خواب اور بیداری کا واقعہ لکھا کہ وہ خواب میں کلمہ شریف میں حضور اکرم ﷺ کے نام نامی اسم گرامی کی جگہ اپنے پیر اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ کی جگہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ (معاذ اللہ) پڑھتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنے پیر سے معلوم کرتا ہے تو جواب میں اشرف علی تھانوی توبہ واستغفار کا حکم دینے کے بجائے کہتا ہے۔

اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو وہ
بغورہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔

(الابداد مصنفه اشرف علی تھانوی صفحہ ۳۵۔)

از مطبع امداد المطابع قحانه بھون انڈیا)

میدان حشر میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی شفاعت کے امیدوارو!
دل کی آنکھوں سے پڑھو، اور انصاف کرو کہ۔۔۔۔۔
آیا ان غلیظ و مکروہ عقائد کے حامل افراد مسلمان ہیں؟

حضور اکرم ﷺ کے علم کو پانگلوں، بچوں اور جانوروں کے علم جیسا کہا گیا ہے۔

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاتا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمرو بلکہ ہر صبی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔

(حفظ الایمان مصنفہ اشرف علی تھانوی صفحہ ۸)

کتاب خانہ اشرفیہ راشدی کمپنی دیوبند

حضور اکرم ﷺ کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا گیا۔

اصل عبارت

اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ضلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

(تحذیر الناس، مصنفہ قاسم نانوتوی صفحہ ۳۴
دارالاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ کراچی)

حضور اکرم ﷺ کے علم پاک سے شیطان و ملک الموت کے علم کو زیادہ بتایا گیا۔

اصل عبارت

شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نص
قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ
ہے۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی
کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔

(براہین قاطعہ از مولوی خلیل احمد انیسٹھوی
مصدقہ مولوی رشید احمد گنگوہی صفحہ ۵۵ مطبع بلال دھور)

نماز میں حضور اکرم ﷺ کے خیال مبارکہ کے آنے کو جانوروں کے خیالات میں ڈوبنے سے بدتر کہا گیا ہے۔

اصل عبارت

زنا کے دوسو سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا انہی جیسے
اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے نیل
اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔

(صراط مستقیم اسماعیل دہلوی صفحہ ۱۶۹
اسلامی اکادمی اردو بازار لاہور)

حضور اکرم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنه کے متعلق لکھا گیا وہ بے اختیار ہیں۔

اصل عبارت

"جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔"

(تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان، مصنفہ اسماعیل دہلوی صفحہ ۴۳
میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ، کراچی)

یہ وہ عبارات ہیں جن کی بنیاد پر دیوبند کے اکابر اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد انبٹھوی کو عالم اسلام کے اکابر علماء نے کافر قرار دیا۔ ملاحظہ ہو حسام الحرمین از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الصارم الہندیہ از علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔

اصل اختلاف

اہلسنت و جماعت و فرقہ و ہابیہ نجد یہ کا اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ اہلسنت و جماعت کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں اور وہابیہ اس کے منکر ہیں۔ اہلسنت و جماعت نذر و نیاز کے قائل ہیں اور وہابیہ نجد یہ اس کو نہیں مانتے، اہلسنت و جماعت مزارات پر حاضری دینا اور ان بزرگان دین کے توسل سے دعائیں مانگنا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں جب کہ وہابیہ دیوبندیہ اس کا رخصت سے محروم ہیں بلکہ اصل اختلاف جس نے امت کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا وہ اکابر دیوبند کی وہ کفریہ عبارات ہیں کہ جن میں کھلم کھلا نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔

اختلاف کا حل

اگر آج بھی وہابیہ دیوبندیہ اپنے ان اکابر کی کفریہ عبارات سے توبہ کر کے ان تمام کفر آمیز و کفر خیز کتب سے بیزاری کا اظہار کر کے انہیں دریا برد کر دیں تو اہلسنت کا اعلان ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔